

نَقَاءُ السُّلَافَةِ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعَةِ وَالْخِلاَفَةِ

# بیعت و خلافت

تصنیف لطیف

علی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ


مکتبہ مہربہ رضویہ

کالج روڈ، ڈسکہ

قیمت دس روپے



BOOK SERIES .....  
SERIAL NO. ....  
PAGE .....  
.....



بیعت و خلافت اور سجادہ نشینی کے بیان میں لایا ہوا رسالہ

مسمیٰ باسم تاریخی

# تَقَاءُ السُّلَافِ

فِی احکام

۱۳۱۹ھ

# الْبَيْعَةِ وَالْخِلَافَةِ

مُصَنَّفٌ

م اہل سنت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت

مامی سنت، حاجی بدعت، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

مکتبہ مہرید رضویہ نزد جامع مسجد نور، ٹرک

## سلسلہ اشاعت نمبر ۱

نام کتاب: نفاہ السلاۃ فی احکام البیعتہ والمخلافہ  
نام مصنف: حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

تعداد: گیارہ سو

اول

آفٹ

طباعت

مطبع

ناشر: مکتبہ مہرید رضویہ نزد جامع مسجد نور ڈسک

دس روپے

قیمت

ملنے کے پتے

مولانا حافظ غلام نبی صاحب خطیب جامع مسجد سبزی منڈی لائل پور

مکتبہ مہرید رضویہ نزد جامع مسجد نور ڈسک ضلع سیالکوٹ  
اپنے شہر کے ہر اسلامی کتب فروش سے طلب کر سکتے ہیں

# فہرست مضامین

۵۰	فلاح باطن	۹	قرآن و حدیث کو سمجھنے کیلئے علماء، مشائخ اور ائمہ کی ضرورت
۵۱	مرشد دو قسم ہے عام و خاص	۱۱	سلوک کی باریکیاں اور معرفت کی حقیقتیں
۵۲	مرشد اتصال کی چار شرطیں	۱۳	سمجھنے کیلئے مرشد کی ضرورت
۵۳	پیر کیلئے علم کی شدید ضرورت ہے	۱۴	سند سے حصول برکت
۵۴	مرشد ایصال اور اسکی شرطیں	۱۵	خلافت عامہ اور خاصہ
۵۵	صرف بیعت تبرک کے فوائد	۱۶	سجادہ نشین مقرر کرنے کی صورتیں
۵۶	بیعت ارادت اور پیر کو کیسا سمجھے	۱۷	خلافت کی سات قسمیں
۵۷	مرشد عام سے جدائی دو قسم ہے	۲۵	سجادہ نشین کا معاون
۵۸	سچا سنی کبھی بے پیر نہیں	۲۶	مقرر کرنا
۵۹	بارہ فوقوں کا پیر شیطان ہے	۲۷	صرف ایک پیر کی بیعت
۶۰	فلاح تقویٰ کیلئے مرشد خاص کی ضرورت	۲۸	جس کا پیر نہیں اسکا پیر شیطان
۶۱	نہیں	۲۹	ہے کی تحقیق
۶۲	سلوک کی عام دعوت نہیں اور نہ ہر شخص	۳۰	خلافت کی سات قسمیں
۶۳	اس کا اہل ہے	۳۱	سجادہ نشین کے متعلق چند مسائل
۶۴	بیعت سے منکر کا حکم	۳۲	پیر کیلئے چار شرطیں
۶۵	فلاح احسان کیلئے مرشد خاص کی ضرورت	۳۳	عورت مرشد نہیں بن سکتی
۶۶	سلوک میں کیسے پیر کی ضرورت ہے	۳۴	فلاح دو قسم ہے
۶۷	آیت وسید کے لطائف		ضرورت کی شفاعت اہل کبار کیلئے
۶۸	حاصل تحقیق		

# کچھ مصنف کتاب کے متعلق

از

حضرت مولانا علامہ الحاج محمد شریف صاحب مدظلہ العالی، مہتمم جامعہ نقشبندیہ عثمانیہ رضویہ دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ

اس رسالہ مبارک کے مصنف و مؤلف کی ولادت باسعادت ہندوستان کے صوبہ یوپی کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں دس شوال ۱۲۷۲ھ بمطابق ۱۴ جون ۱۸۵۶ء بوقت ظہر اپنے آبائی مکان میں ہوئی جس میں آپ کے جد ماجد حضرت عارف باللہ شاہ رضا علیخان صاحب قدس سرہ قیام پذیر تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور عام پکارنے کے لیے احمد رضا رکھا گیا اور تاریخی نام مبارک آپ کا المنحدر ۱۲۷۲ھ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت قدس سرہ نے اپنی تاریخ ولادت اس آیت مبارکہ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ لِيُخْرِجُوهُمْ مِّنْ اَرْضِهِمْ لَقَدْ كَانَ عَدُوًّا لِلْمُؤْمِنِيْنَ فرمائی ہے۔ آپ کے جد ماجد جید عالم عارف باللہ ولی کامل صاحب کرامات اور اسی طرح آپ کے والد ماجد حضرت علامہ فہم امام اہل سنت مولانا محمد نقی علیخان صاحب قدس سرہ بھی زبردست عالم کامل عارف اور بے نظیر مناظر تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں سے جو اہر البیان فی اسرار الارکان مکتبہ حامدیر گنج بخش روڈ لاہور نے طبع کرا کے اہل سنت پر احسان عظیم کیا ہے یہ کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے پڑھنے والے کے دل میں ایک ایک لفظ اترتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ایسے پاکیزہ علمی گھرانہ میں پیدا ہوتے۔ اس لیے آپ مادر زاد ولی اور عارف باللہ تھے۔ آپ نے تقریباً تمام علوم و فنون اپنے والد ماجد سے پڑھے اور حاصل

کئے آپ نے تیرہ برس دس ماہ کی عمر میں صرف، نحو، ادب، حدیث، تفسیر، کلام، اصول و معانی و بیان تاریخ و جغرافیہ، حساب، منطق، فلسفہ، ہیئت و غیرہ جمیع علوم دینیہ عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل فرما کر ۱۲ شعبان المعظم ۱۲۸۶ھ کو سند فراغت حاصل کی اور دستارِ فضیلت زیب سر فرمائی۔ اسی روز سب سے پہلا فتوے جو پیش ہوا وہ یہ تھا کہ اگر بچے کی ناک میں کسی طرح دودھ چرٹھ کر حلق میں پہنچ گیا تو کیا حکم ہے؟ آپ نے بڑے محققانہ انداز میں اس کا جواب تحریر فرمایا کہ منہ یا ناک کے کھورت کا دودھ جو بچے کے پیٹ میں پہنچے گا حرمت رضاعت لائے گا آپ کے والد ماجد نے آپ کا تحریر کردہ فتویٰ پڑھ کر سیلنے سے لگا لیا اور اس زمانہ کے علماء آپ کی یہ عمر اور آپ کا بلند پایہ تحقیقی فتویٰ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ چنانچہ آپ کے والد ماجد نے آپ کی خداداد قابلیت کو دیکھ کر آپ کو منداقتاء پر بٹھا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ اپنے زمانہ کے ایسے عالم اور عارف ہوئے ہیں کہ علماء و فضلاء و عرفاء و اولیاء دُور دُور سے آپ کی زیارت اور علمی استفادہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ان سے ادب سے پیش آتے حتی المقدور خدمت بجالاتے کھانا کھلاتے وقت اپنے دست مبارک سے ان کا ہاتھ دھلاتے۔ ہزاروں بزرگان دین اور مردانِ حق غائبانہ شہیدائی تھے آپ کی جلالت علمی کے پیش نظر عرب و عجم کے علماء و فضلاء نے آپ سے نسبت حاصل کرنے کے لیے زانو تلمذ نہ کیا اور سندِ حدیث لی۔ اور آپ کے دست مبارک پر بیعتِ ارادت کی۔ اور آپ کو اس صدی کا مجدد برحق تسلیم کیا۔ آپ نہ صرف علوم متداولہ جو درس نظامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں کے عالم تھے بلکہ ان کے علاوہ کئی اور علوم مثلاً علم جفر تکسیر، استخراج، تاریخ، ریاضی، ہندسہ و نجوم وغیرہم کے بھی ماہر تھے تقریباً پچاس علوم میں تصانیف مبارکہ ملتی ہیں۔ مولا کریم نے آپ کو بلا کی ذہانت اور حافظہ کی قوت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جو کتاب ایک مرتبہ آپ کی نظر مبارک سے

گزر باقی عمر بھر اس کے صفحے اور سطریں تک یاد رہتیں۔ بعض احباب اپنے حُرُظُن کی بنا پر آپ کو حافظ بھی لکھ دیتے تو آپ کو خیال لاحق ہوا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں اور احباب مجھے حافظ قرآن سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ نے ان کے حُرُظُن کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید حفظ کرنا شروع فرمایا تو ایک ماہ میں بحمدہ تعالیٰ قرآن مجید حفظ فرمایا اس سے آپ کے حسن عمل اور خلوص نیت اور صفائی باطن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہ عمل میں خدا کی رضا اور خوشنودی مطلوب تھی۔

جس طرح کہ حضرت امام الہمام بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے بعد خدا کی عبادت اور بندگی کے لیے اُٹھتے تھے ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی شخص نے آپ کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو کہا یہ امام صاحب ساری رات خدا کی یاد کے لیے بیدار رہتے ہیں آپ نے اس دن سے عہد کر لیا کہ آئندہ ساری رات اللہ کی یاد میں بیدار رہوں گا۔ کیونکہ جو وصف مجھ میں نہ ہو اور خدا کی مخلوق مجھے اس کے ساتھ موصوف کرے تو یہ خدا کی بارگاہ میں بُرا اور اس کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ بارگاہ رسالت کے صاحبِ حضوری تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی مضبوط نسبت اور بڑا گہرا رابطہ اور تعلق تھا۔ آپ کی مبارک زندگی کے ایسے ایسے واقعات اور حالات ملتے ہیں جن سے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا فضل اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر کس قدر نوازشات ہوئیں ہیں۔ ایک مرتبہ تمام ملک میں طاعون کی وبا پھیلی ہر شہر سے روزانہ سینکڑوں جنازے نکلتے کوئی گھر خالی نہ رہا جس میں کوئی موت واقع نہ ہوئی۔ انہی ایام میں آپ نے اعلان فرمادیا کہ میری موت طاعون سے ہوگی اس لیے کہ میں نے مطعون یعنی طاعون کی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمودہ دُعَا بِكَلِمَاتِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ وَفَضَّلَنِي



عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا پڑھ لیے ہیں اور آپ کا ارشاد ہے  
 جو کوئی کسی مرض اور آفت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھ سکے وہ ہرگز  
 اُس مرض یا آفت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ مجھے حضرت فقہہ اعظم اشرف  
 المحدثین سیدی مولانا محمد شریف صاحب کوٹلوی سیالکوٹی نقشبندی مجددی  
 قادری رضوی قدس سرہ نے بیان فرمایا جو کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حلقہ میں  
 سے تھے اور حضرت قبلہ سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب  
 قادری رضوی قدس سرہ لائل پوری جو پچیس سال تک اعلیٰ حضرت قدس سرہ  
 کے آستانہ عالیہ بریلی شریف میں صدر مدرس کی حیثیت میں تدریس کے فرائض  
 سرانجام دیتے رہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو انہی ایام میں ایک گلٹی نکلی جس  
 کی آپ کو سخت تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ وہی طاعون کی گلٹی ہے۔  
 صبح تک آپ کی موت لگتی ہے لیکن آپ نے یہ سُن کر قطعاً اس طرف خیال تک  
 نہ کیا بلکہ آپ رات کو تکلیف کی حالت میں یہ پڑھتے رہے اللّٰهُمَّ صَدِّقِ  
 الْحَبِيْبِ وَكَذِّبِ الطَّيْبِ یعنی اے اللہ اپنے حبیب کی سچائی کو  
 ظاہر بنا اور طیب کو جھوٹا ثابت کر۔ چنانچہ صبح تک اس گلٹی کا نام و نشان تک  
 باقی نہ رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے واپسی پر  
 جہاز طوفان میں گھر گیا۔ کپتان مایوس ہو گیا اُس نے اعلان کر دیا کہ حجاج کرام جہاز  
 سخت خطرے میں ہے اس لیے آپ سب اپنے اپنے کفن پہن لو یہ اعلان سُن کر  
 سب حجاج سخت پریشان ہوئے۔ میری والدہ مجھے دیکھ دیکھ کر رونے لگی۔  
 میں نے اپنی والدہ قبلہ سے عرض کیا کہ آپ بالکل نہ گھبرا ئیں۔ والدہ نے رو کر  
 مجھے فرمایا۔ بیٹا احمد صحت مجھے اپنی جان کا تو کوئی غم نہیں مجھے تمہارا غم ہے  
 حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے عرض کیا کہ اماں جان جہاز  
 کا کپتان اگر مایوس ہو گیا ہے تو پروا نہیں، لیکن میں اپنے مولا کریم کے  
 فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہرزگو

میلوس نہیں ہوں کیونکہ جہاز میں سوار ہوتے وقت میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مطابقت یہ آئی کہ یہ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پڑھ کر سوار ہوا تھا اور حضور ہی کا ارشاد ہے کہ جو کشتی اور جہاز پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے گا تو وہ جہاز نہ تو ڈوبے گا اور نہ تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے اب زمانہ بدل سکتا ہے لیکن یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا بس پھر کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے کپتان اور عملہ جہاز کی طرف سے مبارکبادی کی صدائیں آنے لگیں کہ اے حجاج کرام مبارک ہو ہمارا جہاز خطرہ سے نکل گیا اور ہم سب تباہی سے بچ گئے۔ آپ کی تصانیف مبارکہ کے پڑھنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ جس طرح ظاہری علوم کے بادشاہ تھے اسی طرح آپ علوم باطنیہ کے بھی امام تھے چنانچہ زیر نظر رسالہ مبارکہ "نقاد السلافة فی احکام البیعة والخلافة" جس کی اشاعت کا فخر مکتبہ مہر یہ رضویہ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے موضوع پر یہ واحد رسالہ ہے جن مسائل پر آپ نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ آپ کو اس کے سوا بڑی بڑی مبسوط کتب تصوف میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو یوں معلوم ہوگا گویا صفحہ قرطاس پر الفاظ کی شکل میں جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ کتاب کے پڑھنے سے مصنف علیہ الرحمۃ اور اراکین مکتبہ مہر یہ رضویہ متصل جامع مسجد نور کالج روڈ ڈسکہ منسلح سیالکوٹ کے حق میں بے ساختہ دعا نکلتی ہے۔ جنہوں نے اس کی اشاعت فرما کر اہل سنت پر عموماً اور اہل طریقت پر خصوصاً احسان فرمایا ہے فَجَزَاهُ اللهُ أَشْنَ الْجَزَاءِ بِجَاهِ حَبِيبِ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِهِ الْمُجْتَبَى عَلَيْهِ السَّلْوَةُ وَالْبَلَامُ وَالْحَيَّةُ وَالشَّعَاءُ۔





## مسئلہ ۲۵ - جمادی الاولیٰ ۱۳۱۸ھ

زید کہتا ہے کہ میں مسلمان اور مسلمان کے یہاں پیدا ہوا روز پیدائش سے طریقہ اسلام پر اہنت والجماعت کا پیرو غیر طریقے کی بیجا بات پر جو خلاف سنت ہے حجت کو تیار اور جو باتیں پیر بتاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے بتاتا ہے وہ باتیں مجھ کو معلوم ہیں پہلے سے عمل کرتا ہوں اور نہیں بھی۔ پھر روز قیامت کو گروہ امتیان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اٹھیں گے پھر کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی اور سلسلے میں آنے کی ایک فقرہ جواب اس خیال جاہلانہ کا لکھ دیجئے تاکہ وسوسہ شیطانی دل سے دور ہو جائے آئندہ توبہ و استغفار کریں۔  
بیٹو توجروا۔

### الجواب

قرآن و حدیث میں شریعت طریقت حقیقت سب کچھ ہے اور ان میں سب سے زیادہ ظاہر و آسان مسائل شریعت ہیں ان کی تویہ حالت ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین ان کی شرح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے اور علمائے کرام اقوال ائمہ مجتہدین کی تشریح و توضیح نہ کرتے تو ہم لوگ ارشادات ائمہ کے سمجھنے سے بھی عاجز رہتے۔ اور اب اگر اہل علم عوام کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ پر حکم کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز ہرگز کتابوں سے احکام نکال لینے پر قادر نہیں ہزار جگہ غلطی کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ اس لیے یہ سلسلہ مقرر ہے کہ عوام اجکل کے اہل علم و دین کا دامن نصاب اور وہ تصانیف علمائے ماہرین کا اور وہ مشائخ فتوے کا اور وہ ائمہ ہدئے کا اور وہ قرآن و حدیث کا جس شخص نے اس سلسلے کو کہیں سے توڑا وہ اندھا ہے جس نے دامن ہادی

ہاتھ سے چھوڑا عنقریب کسی عمیق دگرے (کوئیں میں گرا چاہتا ہے امام اجل عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔

لو قدر ان اهل دور تعدا

من فوقهم الى الدور الذي قبله

لا انقطعت وصلتهم بالشارع و

لم يهتدوا لايضاح مشكل ولا

تفصيل مجمل و تأمل يا اخي لو لا

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم فصل بشریعتہ ما اجل فی

القرآن لبقی علی اجمالہ کما ان الائمة

المجتهدین لو لم یفصلوا ما اجل

فی السنة لتبقت السنة علی اجمالها

وهكذا الى عصرنا هذا الخ اسی

میں ہے کما ان اشارة بین لنا بسنتہ

ما اجل فی القرآن وكذلك الائمة

المجتهدین بلینوا لنا ما اجل فی

احادیث الشریعة ولو لا بیانہم

ذلك لبقیت الشریعة علی اجمالها

وهكذا القول فی اهل کل دور

بالنسبة للدور الذین قبلہم

الی یوم القيمة فان الا جمال لم

یزل ساریا فی کلام علماء الامة

الی یوم القيمة ولو لا ذلك ما شر

حت

اگر بالفرض اہل زمانہ تجاوز کر جائیں اپنے

اوپر والوں سے طرف اُس زمانہ کے کہ وہ ان سے

پہلے ہوتوں کا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملنا

منقطع ہو جائیگا۔ اور وہ مشکل کو واضح کرنے

اور مجمل کی تفصیل کی راہ نہ پائیں۔ غور کر لے

جہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن

کے اجمال کی اپنی شریعت سے تفصیل نہ فرماتے

تو قرآن اپنے اجمال پر باقی رہتا جیسا کہ تحقیق

اگر ائمہ مجتہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

کے اجمال کی تفصیل نہ کرتے تو سنت اپنے

اجمال پر باقی رہتی اور ایسے ہی ہمارے اس

زمانہ تک۔ اور میزان الکبریٰ میں ہی یہ بھی ہے

جیسا کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی سنت

کیساتھ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل کی ہے

اور ایسے ہی ائمہ مجتہدین نے ہمارے لئے

احادیث شریعت کے اجمال کا بیان فرمایا ہے

اور بالفرض ان کا بیان نہ ہوتا تو شریعت اپنے

اجمال پر باقی رہتی۔ اور یہی بات ہر اہل دور

کی نسبت اپنے پہلے دور والوں کی قیامت

تک۔ اس لئے کہ اجمال علماء امت کے کلام

میں قیامت تک جاری رہتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا



اکتب ولا عمل علی الشروح حواش  
تو کتابوں کی شرحیں اور شرحوں پر حواشی نہ لکھے  
جاتے جیسا کہ گزر چکا۔ (ناشر)

سکر اور خلاق

غیر مقلدین اسی سلسلے کو توڑ کر گمراہ ہوئے اور نہ جانا کہ

پہرہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند  
رو بہ از حیلہ چسپاں بگسلد این سلسلہ را

جب احکام شریعت میں یہ حال ہے تو صاف روشن کہ دقائق معرفت بے مرشد کامل خود  
بخود قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے یہ راہ سخت بائیک اور بے شمع مرشد  
نہایت تاریک ہے بڑے بڑوں کو شیطان بعین نے اس راہ میں ایسا مارا کہ تحت الشریٰ تک  
پہنچا دیا۔ تیری کیا حقیقت کہ بے رہبر کامل اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا ادعا کرے  
ائمہ کرام فرماتے ہیں آدمی اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم عامل زاہد کامل ہو اس پر واجب ہے کہ ولی  
عارف کو اپنا مرشد بنائے بغیر اس کے ہرگز چارہ نہیں میزان الشریعہ میں ارشاد فرمایا۔

پس معلوم ہوا اس تمام سے جو کہ ہم نے ثابت  
کیا ہے شیخ کے پکڑنے کا وجوب ہر عالم کیسے  
جو طلب کرے عین شریعۃ الکبریٰ کے مشاہدہ  
تک پہنچنے کا اگرچہ اس کے تمام اس کے علم  
عمل زور زہد و ورع پر جمع ہو جائیں اور  
اس کو قطبیت کبریٰ کا لقب دیں اس لئے کہ اس  
قوم یعنی صوفیہ کے طریق کی کچھ شرطیں ہیں جن  
کو کہ سوائے ان کے محققین کے کون نہیں  
پہنچان سکتا نہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنے دعاوی  
اور اوہام کے ساتھ ان داخل ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات  
جن کو انہوں نے قطب ہونے کا لقب دیا ہے وہ اس

فعلہ من جمیع ما قرناہ  
وجوب اتخاذ الشیخ لکل عالم طلب  
الوصول الی شہود عین الشریعۃ  
الکبریٰ ولو اجمع جمیع اقربانہ علی  
علمہ وعملہ وزجودہ وورعہ  
ولقبوہ بالقطبیت الکبریٰ فان  
لطریق القوم شر وطا لا یعرفھا  
الا المحققون منہم دون الدخیل  
فیہم بالدعاوی والادھام و  
سجا کان من لقبوہ بالقطبیت لا  
یصلح ان یکون مرید اللقبہ

لائق نہیں ہے کہ کسی حقیقی قطب کا مرید ہو۔ (ناشر)

یہ اس کے لئے ہے جو اس راہ کا چلنا چاہے۔ اور ہمت پست کوتاہ دست لوگ

اگر سلوک نہ بھی چاہیں تو انہیں تو تسل کے لیے شیخ کی حاجت ہے۔ یوں اللہ عزوجل اپنے بندوں کو بس تھا۔ قال اللہ تعالیٰ ایس اللہ یکاف عبده کیا خدا اپنے بندوں کو کافی نہیں۔ مگر قرآن عظیم نے حکم فرمایا: وابتغوا الیہ الوسیلة اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلہ مشایخ کرام سلسلہ بہ سلسلہ جس طرح اللہ عزوجل تک بے وسیلہ رسائی محال قطعی ہے یو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی بے وسیلہ دشوار عادی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شفاعت ہیں اللہ عزوجل کے حضور وہ شفیع ہوں گے۔ اور ان کے حضور علما و اولیا اپنے اپنے مقبول کی شفاعت کریں گے مشایخ کرام دنیا و دین و نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں میزان الشرعیۃ میں ارشاد فرمایا۔

قد ذکرنا فی کتاب الاجوبۃ تحقیق ہم نے ذکر کیا ہے کتاب الاجوبۃ عن ائمة الفقہاء والصفویۃ ان سب کے سب اپنے متبعین کی شفاعت یشفعون فی مقلدیہم ویلاحظون کریں گے۔ اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کے احدہم عند طلوع روعہ عند نزع کی حالت میں روح کے نکلنے اور منکر و نکیر کے سوالات نشر و حشر اور حساب اور میزان عدل پر اعمال تنے اور پھراط گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور تمام موا فی موقف من المواقف الخ میں سے کسی ٹھہرنے کی جگہ سے غافل نہیں ہوتے۔

اس محتاج بے دست و پا سے بڑھ کر احمق اپنی عافیت کا دشمن کون جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استکثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعتہ یوم القیامۃ اللہ کے بکثرت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔



توسلاسل واسانید اولیائے کرام کا کیا کہنا خصوصاً سلسلہ عالیہ علیہ حضور پر نور  
 سیدنا غوث اعظم قطب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اجدہ الکریم واپانہ الکریم وعلیہ وسلم جو ارشاد  
 فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان اور فرماتے ہیں۔ اگر میرے  
 مرید کا پاؤں پھسلے گا میں ہاتھ پکڑ لوں گا اسی لیے حضور کو پیر دستگیر ز ہاتھ پکڑنے والے  
 کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اُس کا  
 پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا اور فرماتے ہیں مجھے ایک دفتر دیا گیا حدنگاہ تک کہ اس  
 میں میرے مریدوں کے نام تھے قیامت تک اور مجھ سے فرمایا گیا۔ وہبتہم نلک۔ یہ  
 سب ہم نے تمہیں دے ڈلے۔ رواہا عندا لامة الثقات رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
 وعناہم امین واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ** مرسلہ حضور پر نور مولانا حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں  
 صاحب مارہری دامت برکاتہم ۱۳۹۸ھ یہ سوال چند امور متعلقہ خلافت و سجادہ نشینی  
 حضرات اولیائے کرام سے استفسار تھا جن کے مقاصد تقریر جواب سے واضح ہیں۔

**الجواب**  
 الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى واله الكرام  
 السادات الشرفا وصحابة العظام والاولياء العرفا وعلينا معهم  
 دائما ابدا۔

اما بعد۔ خلافت حضرات اولیائے کرام نفعنا اللہ ببرکاتہم فی الدنیا  
 والاخرۃ دو طرح ہے عامہ اور خاصہ عامہ یہ کہ مرشد مربی تربیت دینے والا اپنے  
 مریدین اقارب اور اجانب سے جس جس کو صالح ارشاد ولایق تربیت سمجھے اپنا خلیفہ  
 ونائب کرے اور اُسے اخذ بیعت و تلقین اذکار و اشغال و اوراد و اعمال و تربیت طالبین

عہ اس ارشاد کو معتد کرنے آپ سے روایت کیا ہے۔ عہ نفع دے ہو اللہ تعالیٰ ان  
 کی برکات سے دنیا اور آخرت میں۔

تیک بندوں سے رشتہ و علاقہ رنجت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی کہ اپنے علاقہ والوں کی سفارش کرے۔ سرور اہ ابن البخاری فی تار یخند عن نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالفرض معاذ اللہ اور کچھ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اتصال سلسلہ کی برکت کیا حضور ہی تھی جس کے لیے علماء کرام آج تک حدیث کی سندیں لیتے ہیں یہاں تک کہ رتن ہندی وغیرہ کی اسانید سے طلب برکت کرتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی اصحابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں

کپوح کرنے والے محدث جمال الدین محمد بن

احمد بن امین اقصہری مدینہ منورہ میں رہائش

پذیرنے سے خبر دیا گیا میں اپنی فوائد رحلت میں بیان

کیا ہم سے ابو الفضل اور ابو القاسم بن ابو عبد

بن ابراہیم بن عتیق اللوائی معروف ساتھ ابن

جبار عدوی کے ذکر کیا اپنی سند حدیث حضرت

خواجہ رتن سے فرمایا اور ذکر کیا خواجہ رتن بن

عبداللہ نے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی معیت میں غزوہ خندق میں حاضر ہوئے اور

آپ نے اس حدیث کو سنا اور ہندوستان

کے شہروں میں واپس آئے اور وہاں فوت

ہوئے اور سات سو سال زندہ رہے۔ اور

۵۹۶ھ میں وفات پائی۔ اور اقصہری

نے فرمایا۔ اس سند سے برکت حاصل

کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی صحت

کا وثوق راغمان نہیں ہے۔ رناشہ

انبئت عن المحدث الرجال

جمال الدین محمد بن احمد بن امین

لاقصہری نزیل امدینہ النبویة

فی فوائد رحلتہ اخبارنا ابو الفضل

و ابو القاسم بن ابی عبد اللہ

بن علی بن ابراہیم بن عتیق اللوائی

طعروف بابن الجبار العدوی

ف ذکر بسندہ حدیثا عن

خواجہ رتن قال و ذکر خواجہ

رتن بن عبد اللہ انہ شہد مع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لخندق و سمع منہ ہذا الحدیث

رجع الی بلاد الخند و مات

ما وعاش سبعاً و ستاً و ثمانیۃ

سنة ست و تسعین و خمسمائة

قال الاقصہری و ہذا السند

تبرک بہ وان لم یوثق بھتہ



و ہدایت مسترشدین کے لئے مثال خلافت کرامت فرماتے یہ معنی صرف منصب دینی ہے اور اس میں تعدد خلفاء بیحد و انتہا جائز و واقع حضور سید العالمین مرشد اکمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام بایں معنی حضور کے خلفاء تھے اور اسی خلافت کو وراثت انبیاء سے تعبیر کیا گیا ہے اور بایں معنی علمائے دین و مشائخ کالمین اہل شریعت و شریعت تا بقیام قیامت سب حضرت رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ و التحیۃ کے نواب خلفاء ہیں اور یہ خلافت حیات متخلف (جس کا خلیفہ ہو) سے مجتمع ہوتی ہے کمالاً پختے اور خاصہ یہ کہ اس مرشد مرتبی کے بعد وصال یہ شخص اس کی مسند خاص پر جس پر اس کی زندگی میں سوا اُس کے دوسرا نہ بیٹھ سکتا جلوس کرے اور تمام نظم و نسق و رتق و فتق و جمع و تقسیم و عزل و نصب خدام و تقدیم و تاخیر مصالح و تولیت اوقاف درگاہی و قوامت مصارف خانقاہی میں اُس کے جگہ قائم ہو یہ معنی بھی ہر چند باطن ان کا دین ہے مگر روئے ظاہر بسوئے دنیا رکھتے ہیں

کما قال سیدنا علی کرم اللہ  
تعالیٰ وجہہ فی خلافتہ سیدنا  
الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا  
جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ  
کی خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کیلئے  
پسند فرمایا تو بس ہم اس کو اپنا دینا کیلئے کیوں  
پسند نہ کریں۔ (ناشم)

یہ خلافت خلافت و امامت کبریٰ سے بہت مشابہ و لہذا حیات متخلف سے مجتمع نہیں ہوتی۔ اسی کو سجادہ نشینی کہتے ہیں یہاں مرجع اول تصریح متخلف ہے کہ جس شخص کو وہ ولیعہد کرے یا اُس کے یسے قریب وصال وصیت کر جائے بشرطیکہ وہ وصیت شرعاً معتبر اور وصی مذکور اہل و لائق اور متعلق درگاہ کچھ اوقاف ہوں تو ان کی تولیت کی بھی صلاحیت رکھتا ہو وہی سجادہ نشین قرار پائے گا اور باوجود اس کے نص مقبول و معتبر شرعی کے کام کو نا تمام جان کر بحث ارباب شوریٰ و اہل حل و عقد کے سامنے پیش نہ کریں گے کما فی الامامہ

الکبریٰ والخلافة العظمیٰ اور مجرد تفسیر و عدم انکار نص صریح کے مقابل خصوصاً جبکہ نص متأخر ہو ہرگز رنگ قبول نہیں پاسکتی مثلاً اگر کوئی شخص اُس مرشد مرتبی کے حضور کہے کہ بعد حضور زید سجادہ نشین ہے یا کسی شخص کی تحریر اس مضمون پر مشتمل اُس مرشد مرتبی کے سامنے پڑھی جائے اور وہ اُس قول یا تحریر کو سن کر سکوت فرمائے بعد وصیت سجادہ نشینی بنام عمرو یا با شتر اک زید و عمرو کرے تو یہ وصیت ہی معتبر ہوگی اور وہ سکوت پایہ اعتبار سے ساقط ہے والدلیل علی ذلك فاعدتان من الفقه الاولی لا ینسب الی ساکت قول والاخری ان الصیح یفوت الدلالة۔

اور دلیل اس پر دو قانون فقہ کے ہیں پہلا خاموشی کی طرف کسی قول منسوب نہیں ہوتا دوسرا تحقیق صریح دلالت پر راجح ہوتا ہے۔ (دانشی)

اور اگر نص صریح دو پائے جائیں ایک میں نص صریح وصیت زید کے لیے ہو۔ اور اور دوسرے میں عمرو و خواد دونوں کے لیے اور ان میں ایک کی تاریخ دوسرے سے متأخر ہو تاہم دونوں نص معمول بہ عمل کیا جائے گا، رہیں گے اور زید و عمرو دونوں وصی قرار پائیں گے ہاں اگر نص متأخر میں نص اول سے رجوع اور وصی پیشین کو معزول کیا ہے تو جنگ متأخر متقدم کا نسخ ہو جائیگا۔

وہذا کما فی رد المختار عن ادب الاوصیاء عن التتارخاینة لوصی الی رجل ومکت زمانا فوصی الی آخر فہما وصیان فی کل وصیاء سوا عن تذکر ایصاء الی الاول اونس لان الوصی عندنا لا ینعزل حاله ليعزل الوصی حتی لو کان بین وصیتہ مدة سنة او اکثر لا ینعزل الاول عن الوصیاء۔

اور یہ جیسا کہ رد المختار میں ادب الاوصیاء سے وہ تاتارخانیہ سے کسی نے کسی مرد کو اپنا وصی رنائب بنایا اور کچھ زمانہ ٹھہرا تو دوسرے مرد کو وصی رنائب بنا دیا تو وہ دونوں اس کے تمام وصیاء میں نائب ہونگے۔ برابر ہے کہ پہلے شخصاً کو نائب بنا کر اسے یاد ہو یا بھول گیا ہو کیونکہ وصی رنائب ہر مذہب میں جب تک وصیت کر نیوالا معزول کرے اور اگر اس کا نص نہیں تو اس درگاہ۔ و خانقاہ میں جو دستور قدیم چل رہا ہے۔

عمت جیسا کہ امامت کبریٰ اور بڑی خلافت میں۔



اُس پر کاربندی ہوگی یا اہل حل و عقد جس پر اتفاق کریں مگر ان دونوں صورتوں میں یہ ضرور ہے کہ شخص مذکور اس مرشدِ ربی سے خلافتِ عامہ بطورِ مقبول رکھتا ہو ورنہ بسببِ تعادل یا ہمارے بلا میں بوجہ عدم قضاۃ اتفاق ناس سے تولیت اوقاف اگرچہ صحیح ہو جائے مگر سجادہ نشینی ہرگز درست نہ ہوگی کہ وہ خلافتِ خاصہ ہے اور کوئی خاص بے عام کے متحقق نہیں ہو سکتا اور خلافتِ عامہ بے اجازت صحیحہ زہارِ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت اسد العارفین سیدنا و مولانا حضرت سید شاہ حمزہ عینی مارہری قدس اللہ تعالیٰ سرہ الزکی اپنی بیاض شریف میں ارشاد فرماتے ہیں معلوم باد کہ خلافتِ مشایخ کہ دریں ولایت

مروجست برہفت نوع ست بعضے ازاں مقبول و بعضے ازاں مجہول اول اصالتہ دوم اجازتہ سوم اجماعاً چہارم وراثتہ پنجم حکماً ششم تکلیفاً ہفتم اویسیا اما اصالتہ آنکہ بزرگے بامر الہی شخصے را خلیفہ خود گیرد و زمین خود گرداند۔

ہندوپاک میں مروج ہے سات قسموں میں ہے بعض مقبول ہیں اور بعض مجہول۔ پہلی قسم اصالتہ ہے اور دوسری اجازتاً تیسری اجماعاً چوتھی وراثتہ پانچویں حکماً چھٹی تکلیفاً سابعاً اویسیا۔ اصالتاً یہ کہ کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی شخص کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنائے

دیں کتنا ہوں یہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آگے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میں نے اے علی رضی اللہ عنہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں

مرتبہ سوال کیا کہ وہ آپ کو مقدم کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے کو مقدم کرنے سے انکار فرمایا ہے۔ اور فرمایا

راقول و ذلک کما فی الحدیث عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما قدمت ابابکر و عمر و لکن اللہ قد ہما و عند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سألت اللہ ثلاثاً ان یقدمک یا علی فابی علی الاتقدم ابی بکر و قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا بی اللہ و المؤمنون الا ابابکر الی غیر ذلک من الاحادیث رجعتنا الی کلام سیدنا حمزہ قدس سرہ العزیز و اجازتہ آنکہ شیخ مرید

راخواہ وارث خواہ بیگانہ قابل کار و دیدہ  
برضا و رغبت خود خلیفہ کرو۔

**راقول کا استخلاف امیر المؤمنین**  
علی المرتضیٰ امیر المؤمنین حسن بن علی رضی اللہ  
تعالیٰ عنہما، واجماعتاً آنکے شیخے ازیں عالم نقل  
کرو کہے را خلیفہ نگرفت قوم و قبیلہ وارثے یا  
مریدے را بخلافت وے تجوز نہ نمایند۔

**راقول کا استخلاف اہل الحل والعقد**  
امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بعد شہادۃ  
امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایں  
خلافت نزدیک مشایخ روا نیست و ایں  
نوع خلافت را خلافت افراتی گویند۔

**راقول یعنی لا نعدم الخلافة العاقبة**  
المشروطة لصحة الخلافة الخاصۃ  
فی باب الطريقة اما علی کرم اللہ  
تعالیٰ وجہہ فقد کان من اجل  
خلفاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم، ووراثتہ آنکے مشایخے  
ازیں جان و اگرشت و خلیفہ را بجائے خود  
نگزاشت وارثے کہ شایاں ایں امر بود  
بر جادہ اوشست و خود را خلیفہ گرفت۔  
**راقول کا خلافت الامیر معویہ**  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ابن عمہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق رضی  
اللہ عنہ کے سوا اور کو امام بنائے جانے پر اللہ تعالیٰ  
اور مومن انکار کرینگے ان کے علاوہ دیگر  
احادیث مبارک میں بھی یونہی آیا ہے ہم  
سیدنا حمزہ قدس سرہ کے کلام کی طرف رجوع  
کرتے ہیں۔ اور اجازت دیا کہ کوئی شیخ کسی  
مرید کو خواہ وہ وارث ہو یا بیگانہ کام کے لائق  
دیکھ کر اپنی رضا و رغبت سے اپنا خلیفہ کرے  
دیں کہتا ہوں جس طرح امیر المؤمنین علی المرتضیٰ  
رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین حسن بن  
علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اور اجماعتاً یہ کہ  
شیخ اس عالم سے انتقال کر جائے اور کسی  
کو خلیفہ نہ بنائے قوم اور قبیلہ شیخ کے وارث  
یا کسی مرید کو شیخ کا خلیفہ یعنی جانشین تجویز  
کر لیں۔ د میں کہتا ہوں جس طرح اہل الحل و عقد یعنی  
اصحاب الازمت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ  
کی شہادت کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی  
کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنایا، لیکن یہ خلافت  
مشایخ نے نزدیک روا نہیں ہے۔ اور  
اس قسم کی خلافت کو افراتی خلافت کہتے  
ہیں۔ د میں کہتا ہوں یعنی بوجہ معدوم ہونے  
اس خلافت عامہ کے جو کہ خلافت خاصہ کے  
صحیح ہونے کیلئے شرط ہے۔ لیکن علی کرم

امیر المؤمنین العقی قبل تفویض  
 الامام المجتہ ایاء و هذا ان ثبت  
 انه کان یدعی قبلہ انه خلیفہ  
 والا فقد صح انه رضی اللہ تعالیٰ  
 عنہ کان ینکر دعوی الخلافة  
 ویقول انی لاعلم انه یعنی  
 علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ افضل  
 متی واحق بالامر و لکن الستم تعلمون  
 ان عثمان قتل مظلوما و انا ابن عم  
 و ولیہ اطلب بدما رواہ یحییٰ  
 بن سلیمان الجعفی شیخ البخاری  
 فی کتاب الصغیر بسند جید عن  
 ابی مسلم الخولانی و اما بعد تفویض  
 الامام المجتہ ایاء فلا شک انه  
 امام حق و امیر صدق کما بینہ  
 العلامة ابن حجر الملکی فی الصغیر  
 اس نوع را مشائخ منظور برداشتہ اند و  
 احیاناً ان شیخ اورا در باطن امر فرماید و  
 بود کہ نزد صوفیہ حکم ارواح جائزست۔

راقول ورجع الی الاولیئہ کما  
 ات مستیدی ابی الحسن الخرقانی خلیفہ  
 سیدی ابی بزید البسطانی قدس  
 اللہ تعالیٰ اسرارہ و لکن لا یسلم

اللہ تعالیٰ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 جلیل القدر خلفا سے تھے اور وراثت یہ کہ  
 کوئی شیخ اس جہاں سے انتقال کر جائے اور  
 اپنی جگہ خلیفہ نہ چھوڑے کوئی اس بزرگ کا وارث  
 جو کہ اس امر خلافت کا اہل ہو وہ اس کی  
 جگہ بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو خلیفہ بنائے  
 میں کہتا ہوں جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ  
 کی خلافت ان کے چچا کے بیٹے امیر المؤمنین  
 عثمان العقی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام مجتہ  
 حسن رضی اللہ عنہ کے سپرد کرنے سے پہلے اور  
 یہ سب ہے جبکہ ثابت ہو جائے کہ وہ خلافت  
 کا دعویٰ اس سے قبل کرے۔ اور تحقیق یہ  
 صحیح ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دعویٰ خلافت  
 کا انکار فرماتے تھے۔ اور فرماتے بیشک  
 میں جانتا ہوں کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مجھ  
 سے افضل ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار  
 ہیں۔ لیکن کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ تحقیق  
 عثمان رضی اللہ عنہ ظلماً قتل کئے گئے ہیں اور  
 میں ان کے چچا کا بیٹا انکا بھائی اور ان کا  
 ولی ہوں میں ان کے خون کا بدلہ طلب کرتا  
 ہوں۔ اس کو یحییٰ بن سلیمان الجعفی شیخ البخاری  
 نے سند جدید کیا تھ ابو مسلم الخولانی سے روایت  
 کیا۔ اور لیکن امام مجتہ رضی اللہ عنہ نے جب



امر خلافت ان کو تفویض یعنی سپرد کر دیا تو بیشک  
و شبر وہ امام حق اور امیر صادق تھے جیسا کہ  
اس کو علامہ ابن حجر مکی نے صواعق میں بیان  
فرمایا ہے) اس قسم کو مشائخ نے منظور نہیں  
رکھا۔ اور جیانا کسی وقت وہ شیخ اسکو باطن  
میں حکم فرماویں تو جائز ہے اس لئے کہ صوفیہ  
کے نزدیک ارواح کا حکم جائز ہے۔ اس میں  
کتاہوں اس وقت حضرات اویسی کی طرف

هَذَا كُلُّ مَدْعٍ مَّا لَمْ نَعْلَمْ ثَقَّتْهُ وَ  
عَدَالَتُهُ أَوْ يَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ الْبَاطِنِ  
إِلَى آخِرِ مَا أَفَادَهُ وَاجَادَ قَدْسُ اللَّهِ  
تَعَالَى سِرَّكَ الْعَزِيزِ

ہاں بعد صحت خلافت عامہ تعالیٰ و  
اجماع معتبر و کافی ہے لان المعهود عرفنا  
کاملشروط لفظاً و ما را آہ المسلمون  
حسنافہو عند اللہ حسن۔

جوع کیا جائیگا جیسا کہ حضرت سیدی ابوالحسن الخرقانی حضرت سیدی ابوزید البسطامی قدس  
سرہما کے خلیفہ تھے لیکن یہ امر ہر مدعی سے تسلیم نہیں کیا جائیگا تا وقتیکہ ہم کو اس کی عدالت  
اور ثقہ ہونیکا علم نہ ہو۔ یا اہل باطن حضرات اس کے متعلق شہادت نہ دیں۔ یہاں سے آخر  
تک جو کہ حضرت مارہری قدس سرہ نے افادہ فرمایا اور اچھی باتیں فرمائیں۔ ہاں بعد صحیح ہونے  
خلافت عامہ تعالیٰ یعنی خلیفہ جیسا معاملہ کرنا اور اجماع معتبر اور کافی ہے۔ اس لئے کہ جو شے عرف  
میں معروف (مقرر) ہو وہ گویا لفظاً مشروط ہے (لفظوں میں شرط قرار دی گئی ہے) جو چیز کہ  
مسلمان اس کو اچھی دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ (ناشر)

ایسی جگہ عرف غالب یہی ہے کہ اکبر اولاد کو استحقاق ہوتا ہے اور اس کے ہوتے دوسرا  
نہیں ہو سکتا مگر جبکہ وہ اہلیت سے عاری ہو یا مستخلف ریشخ صرف دوسرے کے نام یا دوسرے  
کو اس کا شریک و سہم بنا کر یعنی حصہ دار بنا کر وصیت معتبرہ کر جائے تو البتہ اس پر عمل سے  
چارہ نہیں اور جس طرح مستخلف کا کسی مصلحت پر عہد کی بنا پر قرابت دار قریب کو بالکل حرم کر دینا  
روا ہے یوں دوسرے کو بر بنائے مصلحت اس کے شریک نہ کرنا اور وجوہ مصلحت سے ایک  
وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اس منصب شریف کا ایک رخ جانب دنیا اور دوسرا جانب دین شہرا  
توجرتنہا ایک امر میں رشد کافی رکھتا ہے اس سے تمام انتظامات کا تکفل غیر مظنون و کفیل بننا  
غیر یقینی لہذا اگر مستخلف (ریشخ) عارف بااصالح و مصلحتوں کا عارف ہو اپنے اقارب سے

ایک کا رشد اور دوسرے کا ادھر زائد دیکھے تو کون مانع ہے کہ وہ عارف صاحب بصیرت  
 وعالم بعواقب الامور ارشاد فی السدین کو خلیفہ و بنظر حجت اخری ارشاد فی انبیا  
 کو اس کا شریک و بازو کر دے تاکہ باتفاق آرا ایک ہیئت اجتماعیہ حاصل ہو کر اس منصب عظیم  
 کے تمام اعبار کا تحمل بروجہ احسن ظہور میں آئے اور امامت کبریٰ میں جو تعدد ناجائز ہوا اس کی  
 وجہ ظاہر ہے کہ وہاں اثنینیت مظنہ فتن عظیمہ و معارک ہائلہ ہے کمالاً یخفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں) مثل  
 مشہور دو بادشاہ در اقلیمے نگنجد (ایک ولایت میں نہیں سماتے) اور یہ خلافت ہر چند امامت کبریٰ  
 سے بغایت مشابہ و لہذا وہ کثرت و تعدد جو خلافت اولیٰ میں واقع یہاں متصور نہیں لیکن تمام  
 احکام میں اس سے اتحاد نہیں رکھتی اسی لیے قرشیت مشروطہ نہ ہوئی اور جس مصلحت پر تشدید  
 فقیر نے تقریر کی مثلاً اگر اثنینیت واقع ہو کوئی دلیل اس کے بطلان پر ظاہر نہیں و من  
 ادعی فعلیہ البیان را اور جو دعویٰ کرے اس پر بیان لازم اور صرف تولیت اوقاف  
 میں تو اپنے محل پر تعدد و نظارہ بدیہی الجواز

اس میں شک نہیں کہ رسم سجادہ نشینی میں عام متواتر وحدت ہو جو عام جاری رسم چلی  
 آہی ہے وہ وحدت ہے اور بلا وجہ اور اس کی مخالفت نہ چاہیے مگر  
 کلام اس میں ہے کہ جب مرشد مری کہ اعراف بالمصالح واعلم بان ہے دو کو جانشین فرما  
 چکا تو اس کے رد کی طرف کوئی سبیل نہیں ہاں صورت مذکورہ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ارشاد  
 فی الدین اصل جانشین اور دو سرناظر و مشرف (دیکھ بھال کرنے والا ہے) ہے

کما اشرنا الیہ واللہ سبحانہ  
 و تعالیٰ اعلم بالصواب وعندہ  
 امر الكتاب و صلی اللہ تعالیٰ علی  
 سیدنا محمد و آلہ صحابہ و الخلفاء  
 جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور  
 اللہ بے عیب اور برتر صواب کو بہتر جاننے  
 والا ہے اور اس کے پاس ہے اصل لکھا ہوا  
 اور دو ویجے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار

اے معاملات کے نتائج کا جاننے والا دین میں سب سے زیادہ ہدایت والا اور سید ہے  
 چلنے والا اور دوسری جہت کے لحاظ سے دنیوی معاملات میں سب سے بہتر جاننے والا ہو۔  
 لے دو کا ہونا بہت بڑے فتنوں کے پیدا ہونے اور تباہ کرنیوالے معرکوں کی جائے گا دے ۱۲

والنواب والاتباع والاحباب محمد اور آل اور اصحاب اور خلفاء اور نائبین  
امین۔ اور تابعین اور دوستوں پر۔ (ناشر)

مسئلہ مع رسالہ زیبِ عرقہ بغرض تصدیق دربارہ منع تعدد بیعت مرسلہ جناب  
مولوی محمد عبد السمیع صاحب مرحوم منفقور مضاف رسالہ انوار ساطعہ از میرٹھ ۲۳ شوال  
۱۳۰۹

## الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الواحد الاحد المنزه من كل شرك و عدد والصلوة  
والسلام على النبي الا وحده و آله و صحبه و تابعيه في الرشده  
من الازل الى ابد الابد (ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم  
کرنیوالا ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو کہ واحد احد ہے ہر شرک اور متعدد ہونے سے پاک  
ہے و رحمت کاملہ اور سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بکتا ہے مخلوق میں اور ان کی آل اور اصحاب  
اور ہدایت میں انکی اتباع کرنیوالوں پر ہو ازل سے لیکر ابد تک۔) <sup>فی الواقع</sup> بے ضرورت صحیحہ صادقہ بلجہ  
مجبور کرنیوالا) باوجود پر غیر کے ہاتھ پر بیعت ارادت سے احتراز نام لازم سمجھے وہو المختار  
وفيه الخير وفي غيره ضير ايما ضير۔ یہی مختار اسمیں بہتری اس کے غیر میں نقصان  
ہے کامل نقصان پریشان نظری و آوارہ گردی باعث محرومی ہے۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔  
يا هذآ قرآن عظیم صاف صاف فرما رہا ہے کہ رجلا سلما الرجل (ایک غلام صرف

(ایک مولا) ہی ہونا بھلا ہے۔

كَمَلُ يَسْتَوِينَ مَثَلًا لِّلْحَمْدِ  
لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ہیں جانتے۔ (ناشر)

یا ہذا پیر صادق قبلہ توجہ ہے اور قبلہ سے انحراف نماز کو جواب صاف با آنکہ اینما تولوا فقم  
وجہ اللہ فرماتے ہیں۔ (تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے)

پھر بھی طالبان وجہ اللہ کو حکم یہی سناتے ہیں کہ



حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 تم جہاں کہیں ہو پس اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھيرو۔ (ناشئ)

یہ محل محل تخری ہے اور صاحب تخری کا قبلہ قبلہ تخری یا ہذا ارباب وفاقا آقا یان دنیا کا دروازہ چھوڑ کر دوسرے در پر جانا کورنگی جانتے ہیں سے

سرا نیجا سجدہ اینجا بندگی اینجا قرار اینجا

ترجمہ شعر: میرا اس جگہ ہے سجدہ اس جگہ بندگی اس جگہ قرار و اطمینان اس جگہ ہے ۱۲  
 پھر احسانات دنیا کو احسانات حضرت شیخ سے کیا نسبت عجب اُس سے کہ محبت و

اخلاص پیر کا دعویٰ کرے اور اُس کے ہوتے این و آن کا دم بھرے ۔

چو دل باد لبر ہی آرام گپرو ز وصل دیگرے کے کام گپرو

نہی صد دستہ ریحان پیش بلبل نخواہد خاطرش جز نگہت گل!

ترجمہ: جب دل ساتھ ایک محبوب کے آرام پکڑے دوسرے کے ملنے سے کب مقصود پکڑے گا

بلبل کے سامنے نیاز بو کے سو دستے رکھے تو سبکین پھول کی نگہت یعنی خوشبو کے سوا اُس کا دل

نہیں چاہے گا۔

يا هَذَا نَيْضِ بَيْرِ مَن وَسَلْوَى هِيَ اَوْرَلَنْ نَضْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّ اِحْدِي هَم

ہرگز ایک طعام پر صبر نہیں کر سکتے) کہنے کا نتیجہ بڑا فلا تکتن اسرا عیلبا و کن لحدیا

یا نلک رزقک بکرة و عشیا یا ہذا دپس تو اسرا عیلبا نہ ہو تو محمدی بن نیرے

پاس رزق صبح و شام آئیگا۔) باپ پدر گل ہے اور پیر پدر دل موئے معتق مشت خاک

ہے اور پیر معتق جان پاک اہل ہوس کے زجر کو ہی حدیث بس ہے کہ جو اپنے باپ کے سوا

دوسرے کو باپ بتائے یا اپنے موئے کے ہوتے غیر کو موئے بنائے اُس پر خدا و ملائکہ و ناس

سب کی لعنت اللہ تعالیٰ نہ اُس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔

الائمة الخمسة عن امیر المؤمنین پانچوں اماموں نے امیر المؤمنین علی کرم

علی کو مر اللہ تعالیٰ وجہہ عن ابنی اللہ تعالیٰ وجہہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من علیہ وسلم سے روایت فرمایا جو شخص اپنے باپ

ادعی الی غیر ابید او انتمی الی غیر  
موالیہ فعلیہ لعنة الله والملکة  
والناس اجمعین لا یقبل الله منه  
صرفا ولا عدلا۔

ہو اور نہ نفل۔ (ناشر)

کے سوا دوسرے کی طرف ادعا کرے یعنی کسی  
دوسرے کو باپ بنائے۔ یا اپنے لگے سوا دوسرے  
کو اپنا موٹے بنائے تو اس پر اللہ اور فرشتوں  
اور تمام انسانوں کی لعنت ہے نہ ان کا فرض قبول

جو لوگ مثلاً عبا نہ ان حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کیا خوف نہیں کرتے کہ مبادا بحکم  
قیاس جلی اس حدیث صحیح کی وعید شدید سے حصہ پائیں یا اھذا سعادت مندان ازلی نے  
خود باوصف حکم پیر ترک پیر روانہ رکھا اور پھر ترک بھی کیسا کہ چشمہ کے پاس سے بحرِ خار کی  
بندگی میں آنا یا اس ہمہ آستان پیر چھوڑنا گوارا نہ کیا اور ان کا یہ ادب محبوبانِ خدا نے پسند  
فرمایا حضور پر نور سید الاولیاء الکرام امام العزما العظام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
حضرت سیدی علی بن ہبئی قدس سرہ الملکوتی کے کہ یہاں رونق افروز ہوئے حضرت علی بن ہبئی  
نے اپنے مرید خاص ولی باختصاص سیدی ابوالحسن علی جو سفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ  
ملازمت اختیار کریں اور یہ پہلے فرما چکے تھے کہ میں حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
کے غلاموں سے ہوں سیدی ابوالحسن قدس سرہ پیر سے یہ کچھ سن کر اس حکم پر رونے لگے اور آستانہ  
پیر چھوڑنا کسی طرح نہ چاہا۔ حضور غوث الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روتا دیکھ کر  
فرمایا ما یجب الا اللہ الذی رضع منه جس پستان سے دودھ پیا ہے  
اُس کے غیر کو نہیں چاہتا اور انہیں حکم فرمایا کہ اپنے پیر کی ملازمت میں رہیں۔

سیدی امام نور الدین ابوالحسن علی بن  
یوسف اللخمی قدس سرہ نے اپنی کتاب بجز  
الاسرار و معدن الانوار میں اس کو سند  
صحیح کی ساتھ سیدی ابو حفص عمر البزار  
رپاکیزہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے بھید  
چنے ہوئے کو، سے اخراج کیا ہے یعنی  
بیان فرمایا اور روایت کیا ہے۔ (ناشر)

اخر جہ سیدی الامام نور  
الدین ابوالحسن علی بن یوسف  
اللخمی قدس سرہ فی کتابہ بہجۃ  
الاسرار و معدن الانوار بسند  
صحیح عن سیدی ابی حفص  
عمر البزار قدس سرہ اللہ تعالیٰ  
سورہ المختار

سیدی عارف باللہ امام اجل عبد الوہاب شہرانی قدس سرہ الربانی مہیران الیکبری  
میں فرماتے ہیں۔

سمعت سیدی علیا الخواص  
رحمہ اللہ یقول امر علماء الشر<sup>یعة</sup>  
الطالب بالتزام مذهب معین  
وعلماء الحقیقة المرید بالتزام  
شیخ واحد۔

ہے کہ ایک ہی پیر کا التزام رکھے۔ (ناشی)

اس کے بعد ولی موصوف قدس سرہ المعروف نے ایک روشن مثال سے اس امر  
کو واضح فرمایا ہے امام علامہ محمد عبد ربی مکی شہیر بابن الحاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدخل شریف  
میں فرماتے ہیں۔

المرید یعظم شیخہ ویوثرہ  
علی غیرہ من ہوی فی وقتہ لان  
النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
یقول من رزق فی شیء فلیلزمہ  
الی آخر ما افادوا جاد ہذا مختصر  
اسی میں ہے۔

المرید لہ اتساع فی حسن الظن  
بہم و فی ارتباطہ مع شخص واحد  
یعول علیہ فی امورہ ویحذر من  
تقضى اوقاتہ بخیر فائدہ  
کرے اور بیفائدہ تضييع اوقات سے بچے۔ (ناشی)

یعنی مرید اپنے پیر کی تعظیم کرے اور اُسے  
تمام اولیائے زمانہ پر مرتز رکھے کہ حضور  
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی  
شے میں رزق دیا جائے جائیے رے لازم  
پکڑے۔ (ناشی)

مرید کے لیے وسعت اس میں ہے کہ  
اپنے زمانہ کے تمام مشائخ کے ساتھ گمان  
نیک رکھے اور ایک شیخ کے دامن سے وابستہ  
ہو رہے اور اپنے تمام کاموں میں اُس پر اعتماد



فائدہ: یہ حدیث کہ امام مکرّم نے معضلاً ذکر کی حدیث حسن ہے

اخرجه البيهقي في شعب

الاجمان بسند حسن عن انس رضي

الله تعالى عنه وهو عند ابن

ماجة من حديثه ومن حديث

اه الامم بن الصديقة رضي

الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم بلنظ من بوزك له في

شيء فليلمزمه اور اس سے استنباط

عجب نفیس و اس والحمد لله على ما رزق

ومن الصلاة والسلام على رسوله

الامن وآله وصحبه وكل من امن

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدّه

اتم وحكمه عز شانه احکم۔

اللہ تعالیٰ خوب چاہتا ہے اور اسکا علم پورا ہے اور اسکا حکم مضبوط ہے۔ (تاشم)

مسئلہ

۱۵۔ شوال ۱۳۱۶ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے

من لا شیخ له فی الدینا فشیخ له شیطان فی الآخرة یعنی جس شخص کا شیخ نہیں ہے

بیچ دنیا کے پس شیخ ہے واسطے اس کے شیطان بیچ آخرت کے یعنی قیامت کے روز گروہ

شیطان میں شیطان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ فی قومہ

کالنبی فی الامّة یعنی شیخ بیچ قوم اپنی کے مثل نبی کے ہے بیچ امت اپنی کے یعنی جس

طرح نبی سے ہدایت امت کی ہوتی ہے اسی طرح شیخ یعنی مرشد سے مرید کو ہدایت ہوتی ہے

جس قوم پر نبی نہیں آیا ہے وہ قوم گمراہ ہے ایسا ہی جو شخص بے پیر ہے وہ گمراہ ہے حضرت شیخ  
المشیرخ نظام الدین اولیا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راحت القلوب میں ارتقام فرمایا ہے جو شخص  
پلہ دامن اولیا اللہ میں نہیں ہے یعنی بے پیر ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے بیان تک  
کہ بندگی اُس کی قبول نہیں ہوتی نماز روزہ اُس کا ایسا ہے جیسا چراغ بے روغن کے اور بعض حضرات  
صوفیہ کرام نے فرمایا ہے بے پیر کے سلام کا جواب ہدایہ اللہ دینا چاہیے بس کسی نے علیک  
جواب بے پیر کو جانکبر دیا اُس نے ساتھ شیطان کے آشنائی کی بیت

اگر بے پیر کارے پیش گیر  
ہلاکی راز بہر خویش گیر  
تجزا اگر بغیر پیر کے کوئی کام پکڑے تو وہ ہلاکت کو اپنے لئے پکڑے گا۔

مصوع پناگرو کی مالا جینا جنم اکارت جائے۔

یعنی پیشوا اور شیخ کے سوا تسبیح پھینا اور ورد و وظیفہ کرنا زندگی برباد کرنے  
کے برابر ہے۔

اور بکر کہتا ہے کہ میں کسی شخص سے بیعت نہیں ہوں اور نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہوں  
وراحکامات شرع شریف اور کلام مجید کو اور جو علمائے دین فرماتے ہیں برحق جانتا ہوں لیکن کسی  
پرفقیہ کا مرید نہیں ہوں اور نہ مرید ہونے کو برا کہتا ہوں تو اس صورت میں بموجب کہنے زید کے  
بکر کی کوئی عبادت کسی قسم کی درگاہ باری تعالیٰ میں قبول نہیں سب عبادت بکر کی بلا مرید ہوئے  
برباد گئی اور سلام علیک بکر سے ناجائز کھڑی اور بکر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور گردہ شیطانی  
کے ساتھ بکر کا حشر ہوگا تو اس صورت میں بکر کیا کرے۔

## الجواب

شیخ یعنی مرشد ہوتا ہادی راہ خدا و طور پر ہے عام و خاص عام ہادی کلام اللہ  
کلام اللہ شریعت و طریقت کلام علماء بل ظاہر و باطن ہے اسی سلسلہ صحیحہ پر کہ عوام کا  
ادی کلام علماء کا رہتا کلام اللہ کا مرشد کلام رسول رسول کا پیشوا کلام اللہ اور خاص یہ  
کہ زید کسی خاص بندہ خدا ہادی مبتدی قابل پیشوائی و ہدایت جامع شرائط بیعت کے ہاتھ  
پر بیعت کرے اور اپنے اقوال و افعال و حرکات و سکناات میں اُس کی ہدایات مطابق شریعت

و طریقت کا پابند ہے شیخ و مرشد یعنی اول ہر شخص کو ضرور اور ایسا بے پر تعلق اور آدم سے دور اس کی عبادت تباہ و مہجور اور اس سے ابتدا بسلام ممنوع و مخطور اور درود نہ تمامت گروہ شیطان میں منشور قال اللہ تعالیٰ یَوْمَ نَبْدُ عَوْکُلَ اَنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ جبرائیل نے گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلا میں گئے جب اس شخص نے ائمہ ہدیٰ کو اپنا پیر تسلیم کیا تو امام ضلالت یعنی شیطان بعین کامرید ہوا لاجرم روز قیامت اسی کے گروہ میں اٹھے نا وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی لَمْرُكَلْمُ گویوں میں اس طرح کے بے پیر و پلہ گروہ ہو سکتے ہیں اول وہ کافر جو سرے سے قرآن و حدیث ہی کو نہ مانے جیسے نجوسی۔ صدر ہذا صراحتہ مردود و بے سود بتاتے ہیں اور قرآن کے یقینی قطعی معانی حق کو رد کر کے دل سے گڑھ کر کہانی پہیلی بناتے ہیں لَعَنَهُمُ اللّٰهُ لَعْنًا كَبِيْرًا۔ دوئم غیر مقلد کہ بظاہر قرآن و حدیث کو ماننے اور ارشادات ائمہ دین و حاملان شرع متین کو باطل و نامعتبر جانتے ہیں سلسلہ بیعت توڑ کر براہ راست خدا و رسول سے ہاتھ ملایا جاتے ہیں وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنَّهُمْ مِّنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ۔ اور عنقریب جان لینے کے ظالم کیسا پلٹنا پلٹینگے، سوم وہابیہ مقلدین کہ اگرچہ بظاہر فروع فقہ میں تقلید ائمہ کا نام لیتے ہیں مگر اصول و عقائد میں صراحتہ سواد اعظم کے خلاف چلتے ہیں اور مقامات و مناصب و تصرفات و مراتب اولیائے کرام کے نام سے جلتے ہیں چہ حکم اسی طرح تمام طوائف ضالہ بد مذہب گمراہ رافضی خارجی معتزلی قدری جبری وغیرہم خذلہم اللہ کہ ان سب نے راہ ہدیٰ چھوڑ کر اپنی ہوا کو امام بنایا اور اپنا سلسلہ بیعت شیطان بعین سے جا کر ملایا۔ قال اللہ تعالیٰ :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهَ هَوٰٓا

کیا تو نے دیکھا وہ شخص جس نے اپنی خواہش

کو اپنا معبود ٹھہرایا۔ (ناشر)

بالجملہ کلمہ جامعہ یہی ہے کہ جو اہل اہوا ہیں یعنی مخالفان اہلسنت و جماعت وہی اس معنی پر بے پر صادق اور ان تمام احکام کے ٹھیک مستحق ہیں قَالَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی يُؤْفِكُوْنَ (اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کہاں اوندھے پھرتے ہیں اسی صحیح العقیدہ کہ ائمہ ہدیٰ کو ماننا تقلید ائمہ ضروری بنانا اولیائے کرام کا سچا معتقد تمام عقائد میں راہ حق پر مستقیم وہ ہرگز بے پیر



نہیں وہ چاروں مرشدان پاک یعنی کلام خدا و رسول و ائمہ و علمائے ظاہر و باطن اُس کے پیرو ہیں۔ بلکہ اگر اسی حالت پر ہے تو مثل اور لاکھوں مسلمانانِ اہلسنت کے اس کا ہاتھ شریعتِ مطہرہ کے ہاتھ میں ہے اگرچہ بظاہر کسی خاص بندہ خدا کے دست مبارک پر شرف بیعت سے مشرف نہ ہوا ہو۔

عہدِ بابائے شریں دہناں بست خدائے ماہمہ بندہ و ایں قوم خداوندانند !  
(ترجمہ:- ہمارے عہد کو مہیٹے منہ والے لوگوں سے خدانے باندھ دیا ہے ہم سب بندے ہیں اور یہ لوگ آقا و مولے ہیں۔) شیخ و مرشدِ معنی دوم سے بھی اُس شخص کو چارہ نہیں جو سلوکِ راہِ طریقت چاہے یہ راہ ایسی نہیں کہ آدمی اپنی رائے سے یا کتابیں دیکھ بھال کر چل سکے اس میں ہر شخص کو نئے مشکلات اپنی اپنی قابلیت و حالات کے لائق پیش آتے ہیں جس کی عقدہ کشائی بے توجہ خاص رہسہر کامل نہیں ہو سکتی مگر اس کے ترک پر وہ جبروتی احکام لگا دینا محض باطل و کذبِ عاقل و ظلمِ صریح اور دینِ الہی پر افتراءِ صحیح ہے اول تو اس راہ کے قاصد اقل قلیل اور جو طلب بھی کرے اُسے اس زمانہ تاریکی و ظلمت و غیبتِ اکشد اصحابِ ولایت و هجومِ دنیا طلبانِ ریاضتِ شیخِ کامل ہر وقت میسر آنا مشکل ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دستے بناید او دست

(ترجمہ:- یعنی بہت سے ابلیس صفت شکل و صورت میں آدمی ہیں پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے) ہزاروں علما و صلحا گزرے کہ بظاہر اس خاص طریقہ بیعت میں اُن کا انسلاک ثابت نہیں کیا معاذ اللہ انہیں اُن سخت احکام کا مصداق کہا جاسکتا ہے۔ اور جو منسک بھی ہوئے کیا سب ہوش سنبھالتے ہی منسک ہو گئے تھے حاشا بلکہ بہت اُس وقت جبکہ علمِ ظاہر میں پایہ عالیہ امامت تک پہنچ چکے تھے کیا اُس وقت تک عیاذ باللہ اُن احکام کے مستحق تھے یہ سخت جہالتِ فاضلہ بلکہ ضلالتِ واضحہ ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

پہلی حدیث جو زید نے بیان کی کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کا نشان نہیں ہاں قول اولیاء ہے اور دوسری حدیث الشیخ فی قومہ کا لنبی فی امتہ (شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں) جسے ابن حبان نے کتاب الضعفا اور دہلی نے

مسند الفروس میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اگرچہ امام ابن حجر عسقلانی اور ان سے پہلے ابن تیمیہ نے موضوع اور امام سخاوی نے باطل کہا مگر شیخ امام جلیل جلال سیوطی سے ظاہر کہ وہ صرف ضعیف ہے باطل و موضوع نہیں انہوں نے یہ حدیث دو وجہ سے جامع صغیر میں اپرا فرمائی۔

جیسے فرمایا کہ شیخ اپنے اہل یعنی اپنی قوم میں ایسے ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں۔

(ناشر)

حيث قال الشيخ في اهله كالنبي في امته الخليل في ميخته وابن النجار عن ابي رافع الشيخ في بيته كالنبي في قومه حب لراي ابن حبان في الصعفا والشبير اذ في الالتقاء

عن ابن عمر

اور خطبہ کتاب میں وعدہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حدیث موضوع نہ لاؤنگا۔

حيث قال تركت القشي واخذت اللباب وصنته عما تفر دبه ونام او كذاب۔

مگر اُس سے اس قدر ثابت کہ ہادیان راہ خدا کی اطاعت لازم ہے اس میں کیا کلام ہے اس کے لیے خود آئیہ کریم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم

کافی ہے قول صحیح وارجح پر اولی الامر سے مراد علمائے دین ہیں کہ علمائے شریعت و طریقت دونوں کو شامل اس سے زیادہ یہ معنی اُس کے لینا کہ جس نے بیعت ظاہری کسی کے ہاتھ پر نہ کی وہ گمراہ ہے ہرگز مفاد حدیث نہیں یہ افتراء و تہمت یا جہل و سفاہت ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ ہاں بیعت و امامت کبریٰ کے لیے صحیح حدیث میں ارشاد ہوا۔

من خلع يدا من طاعة لقي جس نے کھینچا ہاتھ کو اطاعت سے ملیگا

اللہ یوم القیمۃ ولا حجة لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعة مات میتة جاهلیة رواہ مسلم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ اس کے پانچ بیعت کے دن کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو مرتبے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا پڑکانہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرگارتوا

(ناشر)

کیا اس کو مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔

یہ بھی اُس صورت میں ہے کہ امام موجود و تیسر ہو کمالا یحقی والافلا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم۔ (جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے و نہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق)۔

**مشکلہ** :- از کچھوچھا شریف ضلع فیض آباد مرسدہ حضرت سید شاہ ابوالحمود مولانا مولوی احمد اشرف میاں صاحب اشرفی دام مجہم۔

۱۷۔ شوال ۱۳۱۷ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے عظام و حضرات مشائخ کرام اس مسئلہ میں کہ پانسو برس کا زمانہ ہوا زید و عمرو دونوں برابر حقیقی کو ایک ہی مرشد یعنی اپنے والد ماجد سے علیحدہ علیحدہ دو خرقے عطا ہو کر خلافت و سجادہ نشینی حاصل ہوئی زید خلف اکبر برابر اپنے مرشد کے یوم العرس خرقہ عطیہ مرشد کو خاص خانقاہ مرشد میں پیشکر فاتحہ عرس حسب دستور مشائخ کرتا رہا یوں آٹھ پشت تک زید کے خاندان میں خلافت خاندانی و خرقہ پوشی بحیثیت سجادہ نشینی قائم رہی آٹھویں پشت کا اخیر سجادہ نشین بکر اپنی زوجہ ہندہ اور برادر و خلیفہ خاص خالد کو چھوڑ کر انتقال کر گیا ہندہ بعد وفات شوہر خرقہ مذکورہ لیکر اپنے میکے چلی گئی خالد سے سلسلہ بیعت و خلافت خاندانی قریب سو برس سے جاری ہے مگر بوجہ مذکور خرقہ پوشی اُس مدت میں نہ ہو سکی عمرو خلف اصغر کی نسل میں نو پشت تک خرقہ پوشی ایک روز قبل عرس ہوا کہ خاص روز عرس کی خرقہ پوشی نسل خلف اکبر میں ہوتی جب زمانہ خالد میں خرقہ نہ رہنے کے سبب وہ رسم ادا نہ ہو سکی رشید نے کہ نسل عمرو کا نواہ۔

سجادہ نشین اور معاصر خالد تھا دونوں روز خرقہ پوشی کی اب عمرو کے سلسلہ میں حامد اور زید کے خاندان محمود ہے جس نے علاوہ بیعت و خلافت میں ہوا خرقہ بھی واپس لیا اور



رسم رفتہ پھر از سر نو تازہ کی اب حامد اُس کے استحقاق خرقہ پوشی میں منازع ہے مرشد مرشد محمود تک خلافت خاندانی بہت معززین اہل خاندان وغیرہم کو مسلم اور اُن میں مشہور ہے بعض اکابر اہل خاندان نے اپنے رسائل شائع شدہ میں بھی اُسے درج کیا ہے مرشد محمود کو کہ ثقات عدل سے تھے اُن کے مرشد نے خلافت نامہ تحریری دستخطی اپنے قلم مبارک سے دیا جسے خود اُن کے صاحبزادے وغیرہ بہت لوگ جانتے ہیں انہوں نے مدت سے اُس سلسلہ کو اجرا فرمایا۔ لوگ اُن کے پھر محمود پھر خلفائے محمود کے مرید ہوتے رہے اور ہوتے ہیں کبرائے علماء و مشائخ عصر نے محمود کو خلیفہ و سجادہ نشین خاندان مانا اور اس پر فہرہ کی ہیں بلکہ خود مرشد مرشد محمود نے ایک خط و دستخطی کے القاب میں نام محمود کے ہاتھ لفظ سجادہ نشین تحریر فرمایا کیا اس صورت میں یہ سلسلہ خلافت و سجادہ نشینی ثابت و مسلم مانا جائیگا یا انکار بعض منازعین کے باعث تسلیم نہ ہوگا اور چار سو برس تک رسم خرقہ پوشی خاندان محمود میں جاری رہے تقریباً سو برس تک بوجہ مذکور منقطع اور حامد کے یہاں دونوں روز خرقہ پوشی ہونے سے اب حق محمود زائل ہو گیا یا وہ اُس رسم کو تازہ کر سکتا ہے حامد بوجہ مذکورہ یوم العرس خصوصاً حد و خانقاہ میں خرقہ پوشی محمود سے تعرض و مزاحمت کا حق حاصل ہے یا نہیں بیوا توجہ روا۔

## الجواب

صورت مستفسرہ اور یافت کردہ صورت میں محمود کی خلافت خاندانی و سجادہ نشینی ضرور ثابت و مسلم ہے اور انکار منازعین اصلاً مسموع نہیں شرعاً و عقلاً ایسے امور کے ثبوت کے دو طریقے ہیں ایک اتصال سند دوسرے شہرت تقریر سوال سے ظاہر کہ محمود کو دونوں وجہ ثبوت بروجہ احسن حاصل تو نفی نافی قطعاً مسموع و باطل دفعی کرنے والے کی نفی نہ سنی ہوئی یا فتح القدر و بحر الرائق و نہر الفائق و منح النصار و رد النصار میں ہے۔

طریق نقلہ لذلک عن المجتہد  
احد امین اما ان یکون لہ سند فیہ  
او یأخذہ من کتاب معروف نداء اولئہ  
الایدی نحو کتب محمد بن الحسن  
اس قول کو مجتہد سے نقل کرنا طریقہ دو  
میں سے ایک ہے یا تو یہ کہ اس کی سند اس  
میں موجود ہو یا اس کو کسی مشہور کتاب سے پکڑے  
جو ہاتھوں میں متداول ہو جیسا کہ محمد بن حسن

لہ جہاں کرنے والا

کی کتابیں اور انکی مثل مجتہدین کی مشہور تصانیف  
اس لئے کہ وہ بمنزلہ خبر متواتر مشہور کے ہے  
رازی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ (ناشر)

ونحوها من التصانیف المشہورة  
للمجتہدین لانہ بمنزلة الخبر المتواتر  
المشہور فكذا ذکر الرازی۔

جب تصریح ائمہ کرام دین خدا و احکام شرع و مسائل حلال و حرام و فتویٰ و قضایا متعلق بہ  
و محارم و جمع دم بمعنی خون حرام اشیا میں انہیں دو طریقہ سند و شہرت سے صرف ایک وجود  
کافی جس کی بنا پر اجرائے حدود و قصاص تک کیا جائیگا تو امر سجادہ نشینی میں دونوں کا اجتماع  
بھی کافی نہ جانتا سرسری بعد از انصاف ہے۔ سند کی تو یہ حالت ہے کہ زید مسموع القول  
جب کوئی حدیث یا مسئلہ فقہیہ اپنے شیخ سے روایت کرے اور اُس میں تصریح سماع بھی نہ ہو  
تاہم امام بخاری وغیرہ بعض ائمہ کے نزدیک شیخ و تلمیذ کی صرف کبھی ملاقات ہونا تسلیم کے  
یہ ہے اور امام مسلم وغیرہ جمہور اکابر کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں محض معاشرت یعنی  
دونوں کا ایک زمانہ میں ہونا اور امکان تقابلی کافی ہے ہمارے علمائے نزدیک یہی مذہب صحیح  
ہے نہ کہ جب وہ کہے کہ میں نے سنا یا مجھے خبر دی یا مجھ سے حدیث بیان کی کہ اتو بالا جماع بے شرط  
مذکور قبول اور صاحب سند سے دعویٰ سماع پر گواہ مانگنا ضروری جاننا باجماع ائمہ باطل  
و مخذول امام مسلم اپنے مقدمہ صحیح میں فرماتے ہیں۔

گمان کیا ہے اس قائل نے کہ شرع کیا ہم  
نے کلام کو اس کے قول کی حکایت پر تحقیق  
ہر اسناد کو اس میں فلاں عن فلاں ہو  
اور حال یہ کہ علم نے اسکا احاطہ کیا ہو کہ وہ  
دونوں ایک ہی زمانہ میں ہوں اور جائز ہے  
کہ اُس نے اُس سے سنا ہو سوا اس کے  
کہ ہم روایات میں نہ پائیں انکی باہم ملاقات  
کو کہ وہ حجت نہ ہو اور یہ قول نیا گھڑا ہوا  
ہے اور پرانے اور نئے اہل علم میں یہ اتفاق

نعم والقائل الذی افتتحنا  
الکلام علی حکایة قوله ان کل  
اسناد فیہ فلاں عن فلاں و  
قد احاط العلم بانہما کانافی  
عصر واحد وجائز انیکون  
سمعه منہ غیر انہ لم نجد فی  
الروایات اتھما التقیال لیکن حجة  
وهذا القول مختوم مستحدث  
والمتفق علیہ بین اهل العلم

بات ہے کہ روایت ثابت ہے اور حجت اس کے ساتھ لازم ہے مگر یہ کہ اس جگہ دلالت ظاہر ہو کہ راوی نے جس سے روایت کی ہے اس سے ملاقات نہیں کی۔ (ناشی)

یہ وہ ہے جس کی طرف مائل ہوئے ہیں امام مسلم۔ حال یہ ہے کہ محققوں نے اسکا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ ضعیف ہے اور جس کو اس نے رد کیا ہے وہ ہی مختار صحیح ہے جس پر ائمہ فن علی بن المدینی اور امام بخاری وغیرہما جمع ہوئے ہیں

جو نقل کیا گیا ہے امام بخاری سے کہ انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے ساتھ اپنے قول کہ نہیں پہچایا جاتا بعض ان حضرات کا بعض سے تو یہ اس پر مبنی ہے کہ ان کے ملاقات کا علم ہونا شرط ہے اور صحیح یہ ہے کہ ملاقات کا امکان جمہور کا قول کفایت کرتا ہے ہم عصر ہونے کے ساتھ جبکہ ملاقات کے نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اور شرط قرار دیا ہے امام بخاری اور ابن المدینی نے ان کے اجتماع کو اگرچہ ایک ہی مرتبہ (ناشی)

زید و عمرو کی خلافت و سجادہ نشینی درکار خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت رجس کا اثر اعمال سے گزر کر عقائد تک پہنچتا ہے کہ صحابہ کی تعظیم

قد یا و حدیثان الروایة ثابتہ  
والحجة بما لا زمة الا انتكون  
صناك دلاله بينة ان الراوى  
لم يلق من روى عنه اهما لخصا  
شرح امام نووی میں ہے۔

هذا الذى صار اليه مسلم  
قد انكره المحققون وقالوا هذا  
ضعيف والذى رده هو المختار  
الصحيح الذى عليه ائمة الفن على  
بن المدينى والبخارى وغيرهما.  
فتح القدير باب الوتر میں ہے۔

ما نقل عن البخارى من انه  
عله بقوله لا يعرف سماع بعض  
هؤلاء من بعض فبناء على اشتراطه  
العلم باللقى والصحيح الاكتفاء  
بامكان اللقى نیز کتاب الزکوٰۃ فصل فی البقر  
میں فرمایا قول الجمہور الاکتفاء بالمعا  
ما لم يعلم عدم اللقاء و شرط  
البخارى وابن المدينى العلم باجتماعهما  
ولومرة والحق خلافه اهما ملتقطا  
ہوا ہو حال یہ ہے کہ حق اس کے خلاف ہے۔

و محبت ضروری مذہب اہلسنت اور معاذ اللہ انکی توہین و تنقیص گمراہی و ضلالت اس کے بارے میں محققین علماء فرماتے ہیں ثقہ عادل کا خود اپنا خبر دینا کہ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف صحبت حاصل ہوا کافی ہے اگرچہ کسی دوسرے طریقے سے اس کی صحابیت کا اصل ثبوت نہ ہو جبکہ وہ ایسے وقت میں تھا کہ فضل اُسے ملنا مقصود ہو امام ابن حجر سفلی اصابہ فی تمییز الصحابہ میں فرماتے ہیں۔

الفصل الثانی فی الطریق الی  
عرفۃ کون الشخص صحابیا وذلك  
بأشیاء أولها ان یتب بطریق التواتر  
نہ صحابی ثم بالاستفاضة والتشہیر  
ثم بان بیروی عن احد من الصحابة  
ان فلانا له صحبة مثلا وكذا عن  
احاد التابعین بناء علی قبول المتزکیة  
من واحد وهو المراءم ثم بان یقول  
هو اذا کان ثابت العدالة والمعاصرة  
نا صحابی۔

دوسری فصل کسی شخص کے حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی پہچان کے طریق  
میں اور یہ چند چیزوں سے ہے اول یہ کہ تواتر  
کے طریق سے ثابت ہو کہ وہ صحابی ہے پھر  
ساتھ طریق استفاضة اور شہرت کے پھر  
بایں طور کہ کسی صحابی سے روایت کیا جائے  
کہ فلان کو صحبت نصیب ہے مثلاً اور ایسے  
ہی کسی ایک تابعی سے بنا پر قبول کرنے تزکیہ  
کے کسی ایک سے اور راجح ہے پھر بایں طور  
کہ کہے وہ جب کہ اسکی عدالت اور ہم عصر ہونا  
ثابت ہو کہ میں صحابی ہوں۔

مسلم الثبوت میں ہے۔

اخبار العدل عن نفسه بانه

کہ عادل کا خبر دینا اپنی ذات کے بارے

میں کہ وہ صحابی ہے جبکہ وہ ہم عصر ہو۔ خواجہ

ننن کی طرح نہ ہونے پر ہی تغدیل حکم میں (ما شہر)

صحابی اذا کان معاصرا لا کالزن

لیس یعد ینہ نفسه۔

کتنے صحابہ ہیں جن کی احادیث ائمہ حدیث قدیم و حدیث نے اپنے صحاح و مسانید و  
سنن و معاجم میں تخریج فرمائیں نہ ان کے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان تھا  
کہ فلان ہمارے حضور بارگاہ عالم پناہ سے شہ فیاب ہوا نہ ان سے اس پر کوئی شہادت لی  
گئی نہ اور صحابہ کا محضر طلب ہوا ان ثقافت کا خود ہی گنا کہ



میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،  
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،  
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
پاس حاضر ہوا۔ (ناشر)

سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم شہدت رسول اللہ  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
مسموع ومقبول ہوا

جیسا افادہ فرمایا ہے امام ابو عمر بن عبد البر  
نے استیعاب میں اور ثابت رکھا ہے اس  
پر حافظ الشان ابن حجر نے۔ (ناشر)

کما افادہ الامام ابو عمر بن  
عبد البر فی الاستیعاب واقرة  
علیہ حافظ الشان -

**شہرت** : وہ چیز ہے جس سے رشتہ تعلق درکنار رشتہ نسب کہ صداہ احکام حلال  
وحرام و حقوق و ذمام کا مدار ہے شرعاً و عقلاً اجماعاً عرفاً طرح ثابت ہو جاتا ہے ہم شہادت  
دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
کے پسر اظہر اور امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلف  
مظہر ہیں سوا شہرت کے ہمارے پاس اس پر اور کیا دلیل ہے فتاویٰ خلاصہ میں ہے

اے پر نسب تو صورت اس کی یہ ہے  
کہ جب سنا کسی انسان سے تحقیق فلان  
بیٹا فلان کا فلان ہے تو اس کو گنجائش ہے  
اس بات کی کہ شہادت دے اس کی اگرچہ  
اس کے فرش پر اس کی دلالت کا اس نے  
معائنہ نہ کیا ہو۔ کیا نہیں دیکھتا کہ ہم گواہی  
دیتے ہیں اس بات کی کہ تحقیق ابو بکر صدیق  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں حالانکہ  
ہم نے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں۔ (ناشر)

اما النسب فتصورته اذا سمع  
من انسان ان فلانا ابن فلان الفلان  
وسعه ان يشهد بذلك وان  
لم يعاین الولادة علی فراشه  
الا یرى اننا شہد ان ابا بکر الصديق  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی قحافہ  
وما رأینا ابا قحافہ رضی اللہ

عنہ۔

ابو قحافہ پر شہادت کو اگر تا کاتی سمجھا جائے تو تمام سلاسل اولیاء اللہ سے

معاذ اللہ ہمت و ہونا ہو کیا کوئی قادر ہے کہ شرع سلسلہ سے منہ سے تک ہر بندہ خدا کا اپنے شیخ سے خلافت و اجازت پانا ان کے سوا اور کسی طریقہ انیقہ سے ثابت کر سکے حاشا و کلا تو اس کے انکار میں عیاذ باللہ تمام سلاسل کا انکار لازم آتا ہے و ہو کما تری اور جب دلیل شرعی سے محمود کا سلسلہ سجادہ نشینی و خلافت ثابت تو خانقاہ مبارک میں رسم خرقہ پوشی سے اُسے مانع ہونے کا کوئی حق حامد کو نہیں نہ حامد خواہ کسی کا انکار قابل قبول ہو سکتا ہے عقل و نقل کا قاعدہ اجماعیہ ہے کہ نافی پر مثبت مقدم ہوتا ہے و وثقہ گواہی دیں کہ زید و ہندہ کا نکاح ہوا اور ہزار گواہ ہوں کہ نہ ہوا ان نافیوں کی بات ہرگز نہ سنی جائے گی کہ اُس کا حاصل صرف اپنے علم کی نفی ہے یعنی ہمارے سامنے نہوا اور اس سے نفی وقوع لازم نہیں آتی اصول مسلمہ سے ہے۔

مثبت نافی پر مقدم ہے اس لئے کہ جو جانتا ہے وہ حجت ہے اس پر جو نہیں جانتا نفی کی دلیل غیر مقبول ہے مگر دوس چیزیں میں عدا یہ کی کتاب <sup>پیشترق</sup> در میان اس کے کہ گواہ کا علم احاطہ کرے یا نہ (ناشر)

المثبت مقدم علی النافی کان من یعلم حجة علی من لا یعلم <sup>اشباہ</sup> میں ہے۔ بینة النفی غیر مقبولة الا فی عشر الی قوله) وفی ایمان الہدایة لا فرق بین ان یحیط علما الشاہد اولاً۔

دور کیوں جائیے سلاسل طریقت ہی دیکھئے ہر سلسلہ میں بتوسط امام حسن بصری حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے انتساب موجود حالانکہ جاہلیرا کا برائتہ محدثین کہ فن رجال میں انہیں پر اعتماد اور انہیں کی طرف رجوع ہے حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ان کے یہ سماع ہرگز نہیں مانتے مگر اسی قاعدہ عقلیہ و نقلیہ للثبت مقدم علی النافی کان من یحفظ حجة علی من لم یحفظ مثبت نافی پر مقدم ہے اس لئے کہ جس نے محفوظ رکھا اس کی حجت اس پر جس نے محفوظ نہ رکھا نے اتصال سلاسل میں اصلاً خلل نہ آنے و واجب اثبات کے سامنے ایسے اکابر کی نفی مقبول نہ ہوتی تو آج کل کے کسی صاحب کا انکار کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ رہا سو برس تک اُس رسم کا بعد

مذکورہ ادا نہ ہونا وہ بعد ثبوت سجادہ نشینی کیا قابل احتجاج ہے حامد کے یہاں چار سو برس تک روز عرس خرقہ پوشی نہ ہونے نے اُسے ممنوع نہ کیا حالانکہ اول یہ امر اُس کے خاندان میں نہ تھا تو محمود کے یہاں چار سو برس جاری رہ کر سو برس بعد منقطع ہونا کیا مغل ہو سکتا ہے شرع کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ البقاء اسہل من الابداء بنی اسرائیل سے مخالف ثابوت سکینہ چھینے گئے مدینہ مدت کے بعد واپس آیا تو کیا ان کا حق تبرک اُس سے زائل ہو گیا تھا۔

قال الله تعالى وقال لهم نبيهم  
ان ائنه ملكه ان ياتيكم التابوت  
فيه سكينه من ربكم الآية  
رب کی طرف سے سکینت ہوگی۔  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کہا ان کو ان کے  
نبی نے تحقیق نشانی اس کی شاہی کی یہ ہے  
کہ آئینہ گناہ تابوت تمہارے پاس اُس میں تمہارا

یاجب فرامطہ مخذولین کعبہ معظمہ سے حجر اسود اکھیر کو بھر کو لے گئے اور بائیس برس  
بعد مسلمانوں نے بجز اللہ تعالیٰ واپس پایا تو کیا اہل اسلام یا اہل بیت الحرام کا حق تبرک  
واستلام اُس میں باقی نہ رہے یہ امور واضح میں نہایت درجہ روشن و صاف والانصاف  
خیر الاوصاف واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ اور انصاف تمام اوصاف  
سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ پاک اور برتر سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

مسئلہ: چہ میفرماید علمائے دین کہ بروست کدام کس بیعت نمودن جائز  
وعدم جوازست و کدام کس قابل مرشد شدن است و باینہر کیکہ قابل بیعت نمودن  
نیست و اگر کسی را بیعت نماید بحق او شان چہ حکم است۔ (کیا فرماتے ہیں علماء دین  
کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت ہونا جائز ہے اور کس کے ہاتھ پر ناجائز ہے اور کون  
شخص مرشد ہونے کے قابل ہے اور باوجود ان سب باتوں کے جو شخص بیعت کرنے کے  
قابل نہیں اگر وہ کسی کو بیعت کرے اس کے حق میں کیا حکم ہے۔)

الجواب  
بیعت گرفتن و بر مسند ارشاد نشستن  
بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے

را از چار شرط ناگزیر است یکے انکہ سنی  
 صحیح العقیدہ باشد زیرا کہ بد مذہبیاں سگان  
 دوزخ اند و بدترین خلق چنانکہ در حدیث آمد  
 دوم عالم بعلم ضروری بودن کہ - ۴  
 بے علم نتوان خدا را شناخت  
 سوم اجتناب کیا نکر کہ فاسق  
 واجب التوبہین ست و مرشد  
 واجب التعمیم ہر دو چہ گونہ ہم آید چہ ارم  
 اجازت صحیحہ متصلہ کما اجمع علیہ اہل  
 الباطن ہر کہ از نہایت شیطانیہ رافاقت  
 اور انشا ید پیر گرفتارن - واللہ تعالیٰ

کیلئے چار شرطیں ضروری ہیں ایک یہ کہ  
 سنی صحیح العقیدہ ہو اس لئے کہ بد مذہب  
 دوزخ کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق جیسا  
 کہ حدیث میں آیا ہے دوسری شرط ضروری علم  
 کا عالم ہونا۔ اس لئے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں  
 سکتا۔ تیسری یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز  
 کرنا اس لئے کہ فاسق کی توبہین واجب ہے  
 اور مرشد واجب التعمیم ہے دونوں چیزیں  
 کیسے اکٹھی ہونگی چونکہ اجازت صحیح متصل  
 ہو جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔  
 جس شخص میں ان شرائط میں سے کوئی ایک  
 شرط نہ ہو تو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے

مسئلہ : ۸ ربیع الآخر شریف ۱۳۱۵ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ احمد ایک ولی اللہ امام وقت کا مرید و  
 غلام اور امام مدوح کی طرف سے مجاز و مازون ہے بعد وصال شریف اپنے شیخ رضی  
 اللہ تعالیٰ عنہ کے احمد کو بوجہ کثرت ذنوب خیال تجدید بیعت آیا احمد نے اپنے مشائخ کرام  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بعض تصانیف میں دیکھا تھا کہ اگر شیخ تک بوجہ وصال یا بعد  
 کے وصول نہ ہو سکے اور تجدید بیعت چاہے تو شیخ کے کپڑے پر تجدید کرے بایں لحاظ  
 احمد نے مولانا حسین بن حسن خلیفہ و سجادہ نشین حضرت شیخ سے جامہ نشین رضی اللہ تعالیٰ  
 عنہ کی استدعا کی مولانا نے فرمایا جب جانشین شیخ موجود ہے کپڑے کی کیا حاجت ہے  
 احمد کے بھی ذہن میں آیا کہ واقعی نیابت جانشین جامہ سے تم واکمل ہونی چاہیے  
 اس نیت سے مولانا کے ہاتھ پر بیعت کی مگر کبھی اپنا شیخ حضرت ولی اللہ امام مدوح رضی  
 اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسرے کو نہ جانا نہ قرأت شجرہ طیبہ میں کسی اور کا نام داخل کیا نہ



جو شجرے اپنے بیعت کرنے والوں کو دیئے ان میں کبھی حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی نام لکھا اب جانشین موصوف کو بوجہ تجدید مذکور یہ خیال ہے کہ احمد میرا مرید ہے اور احمد اپنے ذہن میں اپنی بیعت اولے پر ہے اس صورت میں امر حق کیا ہے احمد چاہتا ہے کہ اگر میرے خیال کی غلطی ثابت ہو تو میں تائب ہو کر از سر نو دست مولانا پر بیعت مستقلہ بجاؤں اور اگر اسی کا خیال صحیح ہے تو شرع مطہر سے اس پر کیا دلیل ہے کہ باوصفیکہ احمد نے دوبارہ بیعت دست مولانا پر کی مولانا کا مرید منظور نہ ہو بیوا توجہ روا۔

## الجواب

صورت مستفسرہ میں احمد کا خیال صحیح ہے وہ اپنی بیعت اولیٰ پر ہے بوجہ تجدید مذکور جانشین موصوف کا مرید قرار پانے کا فاعل الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى (سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اور سوا اس کے نہیں کہ ہر آدمی کیلئے وہ ہے جو اس نے نیت کی) شرح مطہر سے اس پر دلیل واضح حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور حضرت امیر المؤمنین امام العارفین مولیٰ المسلمین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا قول ہے وناھیک بھما متذوقا فی الدین تیرے لئے ان دونوں حضرت کا دین میں پیشوا ہونا کافی ہے (جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خطائے اجتہاد میں سے رجوع فرما کر دست حق پرست حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پر تجدید بیعت چاہی ظالم کے ہاتھ سے زخمی ہو چکے تھے۔ امیر المؤمنین تک وصول کی طاقت نہ تھی امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے شکر کا ایک سہی گزرا اُسے بلا کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کے ہاتھ پر تجدید بیعت فرمائی اور روح اقدس جوار اقدس رحمت الہی میں پہنچی امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے یہ حال سن کر فرمایا ابی اللہ ان یدخل طلحة الجنة الا بیعتی فی عنقه اللہ عزوجل نے طلحہ کا جنت میں جانا نہ مانا جب تک میری بیعت اُن کی گردن میں نہ ہو۔ دیکھو امیر المؤمنین نے اس بیعت کو اپنی ہی بیعت قرار دیا نہ شکری کی اور حضرت طلحہ نے امیر المؤمنین ہی کو امیر المؤمنین مستحق بیعت سمجھا نہ کہ معاذ اللہ شکری کو۔

ذُنُكُ بَرَهْنُنْ مِنْ رِبِكُ وَقَدْ  
یہ دونوں برہان تیرے رب کی طرف سے  
عرضتہ علی المحقق الشریعة والطریقة  
ہیں اور تحقیق پیش کیا اُس کو شریعت و طریقت

مولانا محب الرسول عبدالقادر القادری  
البدایونی حفظہ اللہ تعالیٰ عن  
شکر کل مجوی وفتویٰ فاقرہ و صوابہ  
واستحسنہ واعجبہ واللہ  
سبحنہ وتعالیٰ اعلم وعلمہ جل  
مجده اتموا حکم۔

رجل ہے اس کی بزرگی اتم اور مضبوط ہے۔

کے محقق مولانا محب رسول عبدالقادر قادیانی  
بدایونی پر ہر بے جیا اور فتنین کے شر سے  
پس اس کو ثابت رکھا اور اس کو صواب  
قرار دیا اور اس کو عجیب اور مستحسن قرار دیا اور  
اللہ تعالیٰ پاک ہر عیب سے اور برتر ہے  
سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کا علم  
(ناشر)

مسئلہ :- از جالندھر محلہ راستہ متصل مکان ڈپٹی احمد جان صاحب مراد

محمد احمد خان صاحب ۲۰۔ شوال ۱۳۱۲ھ

اگر عورت نیک نصلت پابند شریعت واقف طریقت اپنے ہاتھ پر عورتوں اور  
مردوں کو بیعت کرنا شروع کرے تو از روئے طریقت اور شریعت یہ بیعت ہی یا نہیں بحوالہ  
کتاب مع عبارت تحریر فرمائیں۔

الجواب

اولیائے کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی اللہ کا ہونا ضرور ہے لہذا سلف صالحین سے آج  
تک کوئی عورت نہ پیر بنی نہ بیعت کیا حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں  
لن یعلم قوم وتوا امرہا مرأۃ  
رواہ الأئمة احمد و البخاری و الترمذی  
و النسائی عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ  
عنه۔

ہرگز وہ قوم فلاح نہ پائے گی جنہوں نے کسی  
عورت کو والی بنایا۔ اس کو ائمہ کرام احمد اور  
بخاری و ترمذی اور نسائی نے ابو بکر رضی اللہ  
عنه سے روایت کیا۔ (ناشر)

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب  
شعرانی قدس سرہ میزان الشریعہ الکبریٰ  
کتاب الاقضیہ میں فرماتے ہیں۔

قد اجمع اهل الكشف على  
اشتراط الذكورة في كل داع الى الله  
تعالى ولم يبلغنا ان احدا من نساء  
السلف الصالح تصدوت لتربية  
المريدين ابد النقص النساء في  
الدرجة وان ورد الكمال في بعضها  
كريم بن عمران واسية امرأة  
فرعون فذلك كمال بالنسبة  
للتقوى والدين لا بالنسبة للحكم  
بين الناس وتسليكم في مقامات  
الولاية هو غاية امر امرأة انكون  
عابدة زاهدة كرابعة العدوية  
والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه  
جل مجدده اتم واحكم

فقط

بیشک اہل کشف نے اجماع کیا ہے اللہ  
تعالیٰ کی طرف بلانے والے کیلئے مرد ہونا شرط  
قرار دینے پر اور نہیں پہنچی ہم کو خبر کہ سلف  
صالحین کی عورتوں میں سے کوئی عورت مریدین  
کی تربیت کرنے کے درپے ہوتی ہو ہمیشہ بوجہ  
عورتوں کے درجہ میں ناقص ہونے کے اگرچہ  
ان کے تیس کمال وارد ہوا ہے جیسے کہ مریم بن  
عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی پس یہ کمال  
تقویٰ اور دین کے لحاظ سے ہے نہ کہ لوگوں  
کے درمیان حکومت کرنے کی نسبت سے اور  
انکو مقامات ولایت میں چلانے کی وجہ سے  
عورت کی غایت امر یہ بھی ہے کہ وہ علیہ زیادہ  
ہو جیسا کہ حضرت رابعہ عدویہ بصریہ اور اللہ  
سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ جاننے

والا ہے۔ (ناشر)

نقل

## السنة الاثنية في فتاوى افرقية

سؤال ۸۳، ۸۴۔ اگر زید کا پیر و مرشد نہ ہو تو وہ فلاح پاتے گا یا نہیں اور اس کا پیر و مرشد شیطان ہوگا یا نہیں کیونکہ تمہارا رب عزوجل حکم کرتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور بڑھو نہ طرف اس کی وسیلہ۔

الجواب: ہاں اولیائے کرام قدسنا اللہ بامرہم کے ارشاد سے دونوں باتیں ثابت ہیں اور عنقریب ہم ان دونوں کو قرآن عظیم سے استنباط کریں گے، ایک یہ کہ بے پیر فلاح نہ پانے گا حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین سہروردی قدس سرہ عوارف المعارف شریفین میں فرماتے ہیں سبعت کثیرا من المشائخ یقولون من لم یرمضنا لا یفلح یعنی بہت اولیائے کرام کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی فلاح پاتے ہوتے کی زیارت نہ کی وہ فلاح نہ پاتے گا۔ دوسرے یہ کہ بے پیرے کا پیر شیطان ہے۔ عوارف شریفین میں ہے رومی عن ابی یزید انہ قال من لم یکن لہ استاذ فاما مہ الشیطان یعنی سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ فرماتے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ رسالہ مبارکہ امام اجل ابوالقاسم قشیری میں ہے یجب علی المرید ان یتارب بشیخ فان لم یکن لہ استاذ لا یفلح ابد اھذا البویزید یقول من لم یکن لہ استاذ فاما مہ الشیطان یعنی مرید پر واجب ہے کہ کسی پیر سے تربیت لے کہ بے پیر فلاح نہ پاتے گا۔ یہ ہیں البویزید کہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے پھر فرمایا سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق یقول الشجرۃ اذا نبتت بنفسہا من غیر غارس فانہا تروق وکس لا تنثر کذاک المرید اذا لم یکن لہ استاذ یاخذ منہ حسر لیمت لفسا فنفسا فہو عابد ہواہ لا یجد لفاذا یعنی میں نے حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ پیر طجب بے کسی ہونے والے کے آپ سے اُگے تو پتہ رانا ہی مگر پھل نہیں



دیتا۔ یو ہیں مرید کیلئے اگر کوئی پیر نہ ہو جس سے ایک ایک سانس پر راستہ دیکھتے تو وہ اپنی خواہش نفس کا پجاری ہے، راہ نہ پاتے گا۔ حضرت سیدنا میر سید عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں۔

چو پیرت نیست پیرتنت ایس کہ راہ دین زد دست از مکر و تبلیس علیہ

یہ مقام بہت تفصیل و توضیح چاہتا ہے فاقول و بادلہ التوفیق فصلاح دو قسم کی ہے اول انجام کار رستگاری اگرچہ معاذ اللہ سبقت عذاب کے بعد ہو یہ عقیدۃ الہسنت میں ہر مسلمان کے لئے لازم اور کسی بیعت و مریدی پر موقوف نہیں اس کے واسطے صرف نبی کو مرشد جانتا بس ہے بلکہ ابتدائے اسلام میں کسی دور دراز پہاڑ یا گنم ٹاپو کے رہنے والے غافل جن کو نبوت کی خبر ہی نہ پہنچی اور دنیا سے صرف توحید پر گئے بالآخر ان کے لئے بھی یہ صلاح ثابت صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اہل محشر اور انبیاء سے یا یوس پھر کر میرے حضور حاضر ہوں گے میں فرماؤں گا انا لہا میں ہوں شفاعت کے لئے پھر اپنے رب سے اذن چاہوں گا۔ وہ مجھے اذن دے گا، میں سجدے میں کروں گا۔ ارشاد ہو گا یا سجد ارفع رأسک و قل لسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب! میری امت میری امت۔ فرمایا جائے گا جاؤ جس کے دل میں تجو بھر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ انہیں نکال کر میں دوبارہ حاضر ہوں گا، سجدہ کروں گا وہی ارشاد ہو گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ سنا جائے گا مانگو کہ دیا جائے گا، شفاعت کرو کہ قبول ہے۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہو گا جاؤ جس کے دل میں راجع برابر ایمان ہو نکال لو۔ میں انہیں نکال کر سہ بارہ حاضر ہو کر سجدہ کروں گا فرماتے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہو منظور ہے، جو مانگو عطا ہے شفاعت کرو مقبول ہے میں عرض کروں گا۔ اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہو گا

علیہ جب تیرا پیر نہیں ہے تو تیرا پیر ابلیس ہے کہ اس نے دین کی راہ ماری ہے مکر و فریب سے ۱۲ (ناشر)

جس کے دل میں رانی کے دانے کے کم سے کمتر ایمان ہونے سے نکال لو، میں انہیں نکال کر چوتھی بار عرض  
 وساجد ہوں گا۔ ارشاد ہو گا اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ میں نے گے مانگو کہ میں گے شفاعت کرو  
 کہ قبول کریں گے۔ میں عرض کروں گا الہی! مجھے ان کے نکالنے کی اجازت دے جنہوں نے تجھے ایسا  
 جانا ہے۔ ارشاد ہو گا یہ تمہارے سبب نہیں بلکہ مجھے اپنے عزت و جلال و کبریا و عظمت کی قسم ہر  
 موحد کو اس سے نکال لوں گا اقول یہ ان کے بارے میں روئے شفاعت حضور نہیں بلکہ عین قبول  
 ہے کہ حضور کے عرض کرنے ہی پر تو جہنم سے نکلے گئے فقط یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو رسالت سے  
 توسل کا موقع نہ ملا مجرد عقل جتنے ایمان کے لئے کافی تھی یعنی توحید اسی قدر رکھتے تھے۔  
 ثم اقول معنی حدیث کی یہ تقریر کہ ہم نے کی اس سے ظاہر ہوا کہ یہ اس حدیث صحیح کے  
 معارض نہیں کہ فرمایا ما زلت اتردد علی رجبی فلا اقوم فیہ صفا ما لا شفعت  
 حتی اعطانی اللہ من ذالک ان قال ادخل من اہتک من خلق اللہ  
 من شہد ان لا الہ الا اللہ یوم واحد اخلصا ومات علی ذالک  
 میں اپنے رب کے حضور آتا جاتا رہوں گا۔ جس شفاعت کے لئے کھڑا ہوں گا، قبول ہوگی۔  
 یہاں تک کہ میرا رب فرمائے گا کہ تمام مخلوق میں جتنی تمہاری امت ہے ان میں جو توحید  
 پر مبرا ہوا ہے جنت میں داخل کر دو۔ رواہ احمد بسند صحیح عن النبی رضی اللہ  
 تعالیٰ عنہ کہ یہاں کلام امت میں ہے تو یہاں لا الہ الا اللہ سے پورا کلمہ طیبہ مراد ہے جیسا کہ  
 انہیں امام احمد و صحیح ابن حبان کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اقدس صلی  
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لمن شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا وان حمل رسول  
 اللہ یردق لسانہ قلبہ وقلبہ لسانہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہے  
 جو اللہ کی توحید اور میری رسالت پر اخلاص سے گواہی دیتا ہو کہ زبان دل کے موافق ہو اور دل  
 زبان کے اللہم اشہد وکفی بشہید انی اشہد بقلبی ولسانی انہ لا الہ الا اللہ  
 وان حمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حنیفا مخلصا وما انا من المشرکین والحمد  
 للہ رب العالمین دوم کامل دستگاری کہ بے سبقت عذاب دخول جنت ہو اس کے دو پہلو

(دو شہید کی صورت میں)

ہیں اول دفعہ یہ مذہب اہل سنت میں محض مشیت الہی پر ہے جسے چاہے ایسی فلاح عطا فرمائے  
 اگرچہ لاکھوں کبار کا مرتکب ہو اور چاہے تو ایک گناہ صغیرہ پر گرفت کر لے اگرچہ لاکھوں  
 حسنة رکھتا ہو۔ یہ عدل ہے اور وہ فضل یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ۶ حضور  
 اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے گنتی اہل کبار ایسی فلاح پائیں گے۔  
 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی کا ہل الکبائر من امتی میری  
 شفاعت میری امت سے کبیرہ گناہوں والوں کے لئے ہے رواہ احمد ابو داؤد

والترمذی والنسائی وابن حبان والحاکم والبیہقی وصحیح عن النس بن مالک والترمذی وابن ماجہ وابن  
 حبان والحاکم عن جابر بن عبد اللہ والطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس والخطیب عن کعب بن عجرہ و  
 عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر  
 بین الشفاعة و بین ان یدخل شطر امتی الجنة فاختارت الشفاعة  
 لانہا اعم و اکفی استرومھا للمؤمنین المتقین کا و لکنھا للمذنبین المتلوثین  
 الخطاتین مجھ سے میرے رب نے فرمایا تم کو اختیار ہے چاہے شفاعت لے لو چاہے

حضور کی شفاعت اہل کبار کے لئے ہے

۱۰۰ الہی گواہ ہو جا اور تیری ہی گواہی کافی ہے کہ میں اپنے دل و زبان سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود  
 نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ سب باطل دینوں سے کنارہ کرتا ہوا خالص اسلام والا ہو کر اور میں  
 مشرکوں میں سے نہیں ۱۲۰ اگرچہ وہ ایسا کرے گا نہیں لقولہ تعالیٰ ویجزی الذین احسنوا بالحسنہ  
 الذین یحبتون کبائر الائم والفواحش الا اللہ ان ربک واسع المغفرة وقولہ تعالیٰ ان  
 تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم صلاک کربا ۱۰۰ وقولہ تعالیٰ  
 ان احسنن یدھبن السیئت ذلک ذکری للذکرین ۱۲۰ من غفرلہ علیہ جسے چاہے بخشنے اور

جسے چاہے مذاب کرے ۱۰۰ ترجمہ بالا یہ حدیث احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن حبان و حاکم و بیہقی نے النس  
 بن مالک سے روایت کی اور بیہقی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور ترمذی و ابن ماجہ و ابن حبان و حاکم نے جابر بن عبد اللہ سے  
 روایت کی اور طبرانی نے معجم کبیر میں عبد اللہ بن عباس سے اور خطیب نے کعب بن عجرہ سے اور عبد اللہ بن عمر سے  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین - ۱۲ (نامشر)

یہ کہ تمہاری آدھی امت بلا عذاب داخل جنت ہو میں نے شفاعت اختیار فرمائی کہ وہ زیادہ  
مسام اور زیادہ کافی ہے۔ کیا اسے سحرے مومنوں کے لئے سمجھتے ہو۔ نہیں بلکہ وہ گناہ گاروں  
کو وہ روزگاروں بخت خطا کاروں کے لئے ہے والحمد للہ رب العالمین۔

رواہ احمد بسند صحیح والطبرانی فی الکبیر باسناد جید عن ابن عمر  
وابن ماجہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ وہ بھی ہوں  
گے جن کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتے جائیں گے قال اللہ تعالیٰ فاولئک  
بدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ عفورا رحیما اللہ ان کے گناہوں  
کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص  
روز قیامت حاضر لایا جاتے گا۔ ارشاد ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش  
کرو اور بڑے بڑے ظاہر نہ کرو اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ یہ کام کئے  
وہ مقرر ہوگا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ارشاد ہوگا اعطوا مکان کل سیئة  
حسنة اسے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی دو۔ اب کہہ اٹھے گا کہ الہی میرے اور بہت سے  
گناہ ہیں وہ تو سننے میں آتے ہی نہیں۔ یہ فرما کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا ہنسے  
کہ آس پاس کے دندان مبارک ظاہر ہوتے رواہ الترمذی عن ابی ذر رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ باجملة وقوع کے لئے سوا اسلام اور اللہ ورسول کی رحمت کے اور کوئی شرط  
نہیں، جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوم امید یعنی انسان کے اعمال، افعال، اقوال  
حوال ایسے ہونا کہ اگر انہی پر غامتہ ہو تو کرم الہی سے امید والیق ہو کہ بلا عذاب داخل جنت  
کیا جائے۔ یہی وہ فلاح ہے جس کی تلاش کا حکم ہے کہ سابقوا الی مغفرة من  
ربکم وجنة عرضها عرض السماء والارض اس لئے کہ کسب انسانی اسی

۱۱۔ یہ حدیث احمد نے بسند صحیح اور طبرانی نے معجم کبیر میں بسند جید عبداللہ بن عمر سے روایت کی اور ابن ماجہ نے ابو موسیٰ اشعری  
سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۱۲۔ ترجمہ: جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے پیمانے  
کے مانند ہے۔ ۱۳۔ یہ حدیث ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ۱۴۔



سے متعلق یہ پھر دو قسم اول فلاح ظاہر حاشا اس سے وہ مراد نہیں کہ نرے ظاہر داروں کو مطلوب جن کی نظر صرف اعمال جوارح پر مقصور ظاہر احکام شرع سے آراستہ اور معاصی سے منزہ کر لیا اور متقی و مفلح بن گئے اگرچہ باطن ریاء و عجب و حسد و کینہ و تکبر و حبت مدح و حبت جاہ و محبت دنیا و طلب شہرت و تعظیم امراء و تخقیر مساکین و اتباع شہوات و مہلکتہ و کفران نعم و حرص و بخل و طول آمل و سوتے ظن و عناد حق و اصرار باطل و مکر و غدرو خیانت و غفلت و فسوت و طمع و تملق و اعتماد خلق و نسیان خالق و نسیان موت و جرات علی اللہ و نفاق و اتباع شیطان و بندگی نفس و رعبت بطالت و کراہت عمل و قلت خشیت و جزع و عدم خشوع و غضب للنفس و تساہل فی اللہ و غیر ہا مہلکات آفات سے گندہ ہو رہا ہو جیسے مزبلہ پر زربفت کا نیمہ اوپر زینت اور اندر نجاست پھر کیا یہ باطنی خباثتیں ظاہری صلاح پر قائم رہنے دیں گی۔ حاشا معاملہ پڑنے دیجئے کون سی ناگفتنی ہے کہ نہ کہیں گے کون سی ناگردنی ہے کہ اٹھارہ کہیں گے اور پھر بدستور صالح عوام کی کیا گنتی آج کل بہت علمائے ظاہر اگر متقی ہیں بھی تو اسی قسم کے اکامسن شاء اللہ و قلیل ماہم میں اسے زیادہ شرح کرتا مگر کب فائدہ کہ حق تلخ ہوتا ہے اس سے نفع پانا اور اپنی اصلاح کی طرف آنا و رکنار بتانے والے کے لئے دشمن ہو جاتے ہیں مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہزاروں اس نام علم پر کہ آج کل بہت بے دین مرتدین اللہ اور رسول کی جناب میں کیسی کیسی سخت گالیاں بکتے لگتے چھاپتے ہیں۔ ان سے کان پر جوں نہ رینگے کہیں بے پروائی کہیں آرام خواہی کہیں نیچری تہذیب کہیں طمع کی تخریب، کہیں ملاقات کا پاس، کہیں اس کا ہراس (ڈر) کہ ان مرتدوں کا رد کریں۔ مسلمانوں کو ان کا کفر بتائیں تو یہ سر ہو جائیں گے اخباروں لشتاروں

۱۔ دین میں سستی ۲۔ نعمتوں کی ناشکری ۳۔ لمبی آرزو ۴۔ دل کی سختی ۵۔ چا پوسی ۶۔ خدا کو بھول جانا ۷۔ باطل کی رعبت ۸۔ ڈر کی کمی ۹۔ بے صبری ۱۰۔ خشوع کا نہ ہونا ۱۱۔ نفس کے لئے ناراض ہونا ۱۲۔ اللہ کے بلے ۱۳۔ سستی کرنا ۱۴۔ ہلاک کرنے والی آفتیں ۱۵۔ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اور وہ بھڑے ہیں۔  
(ناشر)

ہیں ہماری مذمتیں گائیں گے۔ ہزاروں جھوٹے بہتان لگائیں گے۔ کون اپنی عافیت تنگ کرے  
 ان ناپاک وجوہ کے باعث وہاں خموشی اور خود ان سے اعمال میں خطا بلکہ عقائد میں غلطی  
 ہوا سے کوئی بتاتے تو نہ اب وہ تہذیب نہ آرام طلبی نہ بے پروائی نہ سلامت روی  
 نہ جانے سے باہر ہو کر جس طرح بنے اس کی عداوت میں گرمجوشی حتیٰ کا جواب نہ بن آتے  
 عقائد و مکابرہ سے کام لینا حتیٰ کہ کتابوں کی عبارتیں گڑھ لیں، جھوٹے حوالے دل سے  
 اسٹ لیں کہ کہیں اپنی ہی بات بالارہے۔ عوام کے سامنے شیخی کر کرسی نہ ہو یا وہ  
 وعظ وغیرہ کے ذریعے سے مل رہتا ہے اس میں کھنڈت نہ پڑے۔ کیا اسی کا نام تقویٰ  
 ہے حاشا! بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدگوئیوں کے مقابل وہ  
 اب خرگوش اور اپنے نفس کی بے جا حمایت میں یہ جوش و خروش تو یہ کہتا ہے کہ اللہ  
 رسول کی عظمت سے اپنے نفس کی عظمت دل میں سوا ہے۔ اب اسے کیا کہتے سوا  
 اس کے کہ انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم  
 بجلہ اس صورت کو فلاح سے علاقہ نہیں صاف ہلاک ہے بلکہ صلاح ظاہر یہ کہ دل و  
 ان دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب بجالاتے نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ  
 مصر ہے نفس کے خصائل ذمیرہ اگر دفع نہ ہوں تو معطل رہیں، ان پر کاربند نہ ہو مثلاً  
 ل میں بخل ہے تو نفس پر جبر کر کے ہاتھ کشادہ رکھے، حد ہے تو محسود کی برائی نہ چاہے  
 علیٰ ہذا القیاس کہ یہ جہاد اکبر ہے اور اس کے بعد مواخذہ نہیں بلکہ اجر عظیم ہے حدیث  
 میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لمنہا  
 هذا الاصل الحسد والظن والطيرة الا انبتکم بالخرج منها اذا ظننت  
 تلا تحقق واذا حسدت فلا تبغ واذا تطيرت فامض تین خصلتیں اس  
 مت سے نہ چھوٹیں گی۔ حسد، بدگمانی اور بدشگون۔ کیا میں تمہیں ان کا علاج نہ بتا دوں

علاء بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔  
 اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ بلند تر عظمت والے کے ساتھ

بدگمانی آتے تو اس پر کار بند نہ ہو اور حسد آئے تو محسود پر زیادتی نہ کرو اور بدشگونگی کے باعث کام سے رک نہ رہو رواہ <sup>۱۱</sup> رستہ فی کتاب الایمان عن الامام الحدیث البصری مرسلًا وصلہ ابن عدی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلفظ اذا حسدتم فلا تتبعوا و اذا ظننتم فلا تحققوا و اذا تطیرتم فامضوا و علی اللہ فتوکلوا یہ منقول تقویٰ ہے اس سے آدمی سچا متقی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسے فلاح ظاہر باری معنی کہا کہ اس میں جو کچھ کرنا نہ کرنا ہے اس کے احکام ظاہر و واضح ہو چکے ہیں فتدبیر الرشد من الغنی دوم فلاح باطنی کہ قلب و قالب رذائل سے متحن اور فضائل سے متحلی کر کے بقایائے شرک خفی دل سے دور کئے جائیں یہاں تک کہ مقصود الا اللہ پھر لا مشہود الا اللہ پھر لا موجود الا اللہ متحلی ہو یعنی اولیٰ ارادہ غیر سے خالی ہو پھر غیر نظر سے معدوم ہو پھر حقیقت جلوہ فرماتے کہ وجود اسی کے لئے ہے باقی سب ظلال و پر تو۔ یہ منتہائے فلاح و صلاح احسان ہے۔ فلاح تقویٰ میں تو عذاب سے دوری اور جنت کا چین تھا کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ ضرور فلاح کو پہنچا اور فلاح احسان سے اعظم ہے کہ عذاب کا کیا ذکر کسی قسم کا اندیشہ و غم بھی ان کے پاس نہیں آتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہ بہر حال اس فلاح

۱۱ ترجمہ اس حدیث کو رستہ نے کتاب الایمان میں امام حسن بصری سے بے ذکر صحابی سے روایت کیا اور ابن عدی نے بحیث متصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں حدائے تو زیادتی نہ کرو اور بدگمانی آئے تو اسے جمانہ دو اور بدشگونگی آئے تو روکو نہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو ۱۲ عہد شیک ہدایت ظاہر ہوئی مگر ابی سے ۱۱ مترجمہ، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے ۱۲ کوئی نظریں نہیں سوائے اللہ کے۔ ۱۲ مترجمہ، کوئی وجود ذاتی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے ۱۲ (ناشر)

کے لئے ضرور پیر و مرشد کی حاجت ہے چاہے قسم اول کی ہو یا دوم کی اقتول اب مرشد بھی دو قسم ہے اول عام کہ کلام اللہ و کلام الرسول و کلام آئمہ شریعت و طریقت و کلام علمائے دین اہل رشد و ہدایت ہے اسی سلسلہ صحیحہ پر کہ عوام کا ہادی کلام علما، علماء کارہنما کلام آئمہ، آئمہ کا مرشد کلام رسول، رسول کا پیشوا کلام اللہ جل و علا و صلے اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و سلم۔ فلاح ظاہر ہو یا فلاح باطن اسے اس مرشد سے چارہ نہیں جو اس سے جدا ہے بلاشبہ کا فر ہے یا گمراہ اور اس کی عبادت برباد و تباہ دوم خاص کہ بندہ کسی عالم سنی صحیح العقیدہ صحیح الاعمال جامع شرائط بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے یہ مرشد خاص جسے پیر و شیخ کہتے ہیں۔ پھر دو قسم ہے اول شیخ اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے۔ اس کے لئے چار شرطیں ہیں (۱) شیخ کا سلسلہ بالاتصال صحیح حضور اقدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت محض بزعم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت تو کی مہتی مگر خلافت نہ ملی مہتی بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا اس میں فیض نہ رکھا گیا لوگ براہ ہو س اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں یا سلسلہ فی نفسہ اچھا تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انتفا سے بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع ہے۔ ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ پہل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ (۲) شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آج کل بہت کھلے ہوتے بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سرے سے منکر و دشمن اولیا ہیں مکاری کے لئے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط سے



اے بسا ابلیس آدم روتے ہست پس بہر دستے نباید واد دست

(۳) عالم ہو اقول علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم کہ عقلا  
اہلسنت سے پورا واقف کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو  
ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جاتے گا مع فمن لم یعرف الشر فیومایقر  
حینہ صدہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جاہل براہ جہالت ان  
پڑ جاتے ہیں اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے قول یا فعل سے کفر سرزد ہوا اور  
اطلاع توبہ ناممکن تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جا  
ڈر بھی جاتے تو یہ بھی کر لے مگر وہ جو سجادة مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں  
کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے، کب قبول کرنے دے و اذا قیل له التوب  
اللہ اخذتہ العزلة بالاشم اور اگر ایسے ہی حق پرست ہوتے اور مانا تو کتنا  
کہ آپ توبہ کر لیں گے قول و فعل کفر سے جو بیعت فسخ ہو گئی اب کسی کے ہاتھ پر  
کریں اور شجرہ اس جدید شیخ کے نام سے دیں اگرچہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو یہ ار  
کا نفس کیونکر گوارا کرے نہ اسی پر راضی ہوں گے کہ آج سے سلسلہ بند کریں مرید  
چھوڑ دیں لا جرم وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے لہذا عالم عفت اند ہونا لازم  
(۴) فاسق معان نہ ہو اقول اس شرط پر حصول التصال کا توقف نہیں کہ مجرد فسق  
باعث فسخ نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب دونوں کا اجتماع  
باطل۔ تبیین الحقائق امام زبلی وغیرہ میں دربارہ فاسق ہے فی تقدیمہ للاصا  
تعظیمہ قد وجب علیہم اہانۃ شرعاً و م شیخ ایصال کہ شرائط مذکورہ کے

پیر کے لئے علم کی شدید ضرورت ہے

اشد ایصال اور اس کی شرطیں

عہ بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہیں۔ پس ہر ماہ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ ۱۲  
۱۱۔ مترجمہ، جو شر سے آگاہ نہیں ایک دن اس میں پڑ جائے گا۔ ۱۲۔ ۱۱۔ مترجمہ  
اور جب اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھتی ہے گناہ کی تعظیم  
اسے امامت کے لئے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شرع میں تو اس کی توہین واجب ہے ۱۲۔

ساتھ مفسد نفس (نفس کے فسادات) و مکائد شیطان (شیطان کی مکاریاں) و مصائد ہوا  
 (خواہشات کا شکار) سے آگاہ ہو۔ دوسرے کی تربیت جانتا اور اپنے متوسل پر شفقت  
 تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے ان کا علاج بتاتے جو مشکلات اس  
 راہ میں پیش آئیں حل فرماتے نہ محض سالک ہونہ نرا مجذوب۔ عوارف شریف میں  
 فرمایا یہ دونوں قابل پیری نہیں اقتول اس لئے کہ اول خود ہنوز راہ میں ہے اور دوسرا  
 طریق تربیت سے غافل بلکہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب اور اول اولیٰ ہے  
 اقتول اس لئے کہ وہ مراد ہے اور یہ مرید پھر بیعت بھی دو قسم ہے اول بیعت برکت  
 کہ صرف تبرک کے لئے داخل سلسلہ ہو جانا۔ آج کل عام بیعتیں یہی ہیں۔ وہ بھی نیک  
 نیتوں کی ورنہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لئے ہوتی ہے وہ خارج از  
 بحث ہیں۔ اس بیعت کے لئے شیخ القفال کہ شر الطاربع کا جامع ہو بس ہے۔  
 اقتول بیکاریہ بھی نہیں مفید اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے  
 محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ  
 سعادت ہے اول ان کے خاص غلاموں سالکان راہ سے اس امر میں مشابہت  
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبه بقوم فهو منهم  
 جو جس قوم سے مشابہت پیدا کر لے وہ انہی میں سے ہے۔ سیدنا شیخ الشیوخ  
 شہاب الحق والدین سہروردی رعنی اللہ تعالیٰ عنہ عوارف المعارف شریف میں فرماتے  
 ہیں واعلم ان الخرقۃ خرقان خرقۃ الارادۃ وخرقۃ التبرک والاصل الذی قصدا المشایخ للمریدین  
 خرقۃ الارادۃ وخرقۃ التبرک لثبہ بخرقۃ الارادۃ للمرید الحقیقی وخرقۃ  
 التبرک للمتشبہ ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ ثانیاً ان غلامان خاص کے ساتھ  
 ایک سلک میں منسلک ہونا، بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

بیعت و بیعت تبرک و بیعت ارادت  
 صرف بیعت تبرک کے فوائد

ترجمہ: واضح ہو کہ خرقے دو ہیں خرقۃ ارادت، خرقۃ تبرک مشائخ کامریدوں کی اصلی مطلوبہ خرقۃ ارادت ہے اور خرقۃ تبرک اس سے مشابہت تو حقیقی مرید کیلئے خرقۃ  
 ارادت ہے اور مشابہت چاہنے والوں کیلئے خرقۃ تبرک اور جو کسی قوم سے مشابہت چاہے، وہ انہی میں سے ہے بلبل کو یہی کہ پھول کی صحبت ہو کافی ہے۔  
 (ناشر)

علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا رب عزوجل فرماتا ہے ہمد القوم لا یشتقی بہم جلیسہم وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ثالثاً محبوبانِ خدا آیتِ رحمت ہیں۔ وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظرِ رحمت رکھتے ہیں۔ امام کیاسیدی ابوالحسن نورالملک والدین علی قدس سرہ بھجۃ الاسرار شریف میں فرماتے ہیں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی اگر کوئی شخص حضور کا نام لیوا ہو اور اس نے نہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہو نہ حضور کا خرقہ پہنا ہو کیا وہ آپ کے مریدوں میں شمار ہو گا فرمایا من انتم الی وتستی لی قبلہ احلہم تعالیٰ وقاب علیہ ان کان علی سبیل مکروہ وهو من جملة اصحابی وان ربی عزوجل وعدنی ان یدخل اصحابی واهل مذہبی وکل محب لی الجنة جو اپنے آپ کو میری طرف نسبت کرے اور اپنا نام میرے غلاموں کے دفتر میں شامل کرے اللہ سے قبول فرماتے گا اور اگر وہ کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو تو اسے توبہ دے گا اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے اور میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور ہم مذہبوں اور میرے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل فرماتے گا۔ والحمد للہ رب العلمین دوم بیعت ارادت کہ اپنے ارادہ و اختیار سے یکسر باہر ہو کر اپنے آپ کو شیخ مرشد ہادی برحق و اصل بحق کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دے اسے مطلقاً اپنا حاکم و مالک و متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے کوئی قدم بے اس کی مرضی کے نہ رکھے اس کے لئے اس کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح نہ معلوم ہوں، انہیں افعال خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مثل سمجھے اپنی عقل کا قصور جانے، اس کی کسی بات پر دل میں بھی اعتراض نہ لائے اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے عرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے یہ بیعت سا لکین ہے۔ اور یہی مقصود مشائخ مرشدین ہے۔ یہی اللہ عزوجل تک پہنچاتی ہے یہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لی ہے جسے سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالینار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

بیعت ارادت اور یہ یکسر

علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکسر وان کان نازع الا مرآهله  
 نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہر آسانی و دشواری ہر خوشی  
 ناگواری میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور صاحب حکم کے کسی حکم میں چون و چرا  
 کریں گے۔ شیخ ہادی کا حکم رسول کا حکم ہے اور رسول کا حکم اللہ کا حکم اور اللہ کے  
 حکم میں مجال دم زدوں نہیں اللہ عزوجل فرماتا ہے وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا  
 قضی اللہ ورسوله امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ  
 رسولہ فقد ضل ضللاً مبیناً کسی مسلمان مرد و عورت کو نہیں پہنچتا کہ جب اللہ  
 رسول کسی معاملہ میں کچھ فرمادیں پھر انہیں کام کا کوئی اختیار رہے اور جو اللہ ورسول کی  
 فرمانی کرے وہ کھلا گمراہ ہوا۔ عوارف شریف میں ارشاد فرمایا دخولہ فی حکم الشیخ  
 دخولہ فی حکم اللہ ورسولہ واحیاء سنۃ المبیعة شیخ کے زیر حکم ہونا  
 اللہ ورسول کے زیر حکم ہونا ہے اور اس بیعت کی سنت کا زندہ کرنا۔ نیز فرمایا ولا یکون  
 هذا الا لمرید حصر نفسه مع الشیخ والتسليم من ارادته لنفسه وفنی  
 فی الشیخ بترك اختيار نفسه یہ نہیں ہوتا مگر اس مرید کے لئے جس نے اپنی جان کو  
 شیخ کی قید میں کر دیا اور اپنے ارادے سے بالکل باہر آیا اپنا اختیار چھوڑ کر شیخ میں فنا ہو  
 گیا پھر فرمایا ويجذر الاعتراض علی الشیوخ فانہ السم القاتل للمریدین وقل ان یکون مرید یعترض علی  
 الشیخ بباطنه فیفلم ویذکر المرید فی کل ما اشکل علیہ من تصاريف الشیخ قصة الخضر علیہ السلام  
 کیف کان یصدر من الخضر تصاريف ینکرها موسیٰ ثم لما کشف عن معناها بان وجه الصواب فی ذاک فمکذا  
 ینبغی للمرید ان یعلم ان کل تصرف اشکل علیہ صحیح من الشیخ عند الشیخ فی بیان برهان للصحة پیروں اعتراض سے پہلے  
 کہ یہ مریدوں کے لئے زہر قاتل ہے، کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض  
 کرے پھر سلاح پائے شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح نہ معلوم ہوتے  
 ہوں ان میں خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات یاد کرے کیونکہ ان سے وہ باتیں صادر  
 ہوتی تھیں بظاہر جن پر سخت اعتراض تھا جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا بے گناہ  
 بچے کو قتل کر دینا، پھر جب وہ اس کی وجہ بتاتے تھے ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں



نے کیا، یو ہیں مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے۔ امام ابوالقاسم قشیری رسالہ میں فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ ان سے ان کے شیخ حضرت ابوسہل صعلوکی نے فرمایا من قال لا ستاذہ لہ لیس لہ یفتم اجلا جو اپنے پیروں سے کسی بات میں کیوں کہے گا کبھی فلاح نہ پاتے گا لنسأل اللہ العفو والعاقبة جب یہ اقسام معلوم ہوتے اب ہم مسئلہ کی طرف سے مطلق فلاح کے لئے مرشد عام کی قطعاً ضرورت ہے فلاح نقوی ہو یا فلاح سنان اس مرشد سے جدا ہو کر ہرگز نہیں مل سکتی اگرچہ مرشد خاص رکھتا بلکہ خود مرشد خاص بنتا ہوا فتول پھر اس سے جدائی دو طرح ہے اول صرف عمل میں جیسے کسی کبیرے کا ترکیب یا صغیرے پر مصر اور اس سے بدتر ہے وہ جاہل کہ علماء کی طرف رجوع ہی نہ لاتے اور اس سے بدتر کہ باوصف جاہل ذی رائے بنے احکام علماء میں اپنی رائے کو دخل دے یا حکم کے خلاف اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑے اور اسے حدیث و فقہ سے بتا دیا جاتے کہ یہ رواج بے اصل ہے جب بھی اسی کو حق کہے مہر حال یہ لوگ فلاح پر نہیں اور بعض بعض سے زائد ہلاکت میں ہیں مگر صرف ترک عمل کے سبب نہ بے پراہو نہ اس کا پیر شیطان جب کہ اولیاء و علمائے دین کا سچے دل سے معتقد ہو اگرچہ شامت نفس نافرمانی پر لاتے کہ بیعت جس طرح باعتبار پیر خاص دو قسم تھی یوں ہی باعتبار مرشد عام بھی۔ اگر اس کے حکم پر چلتا ہے، بیعت ارادت رکھتا ہے ورنہ بیعت برکت سے خالی نہیں کہ ایمان و اعتقاد تو ہے تو گنہگار سنی۔ اگر کسی پیر جامع شرائط اربعہ کا مرید ہے فہما ورنہ بوجہ حسن اعتقاد مرشد عام کے منتسبوں میں ہے اگرچہ نافرمانی کے باعث فلاح پر نہیں دوہم منکر ہو کر جدائی مثلاً (۱) وہ ابلیسی مسخرے کہ علمائے دین پر ہنستے اور ان کے احکام کو نوسہ بھینتے ہیں انہی میں ہیں وہ جھوٹے مدعیان فقر جو کہتے ہیں کہ عالموں فقروں کی سدا سے ہوتی آئی ہے یہاں تک کہ بعض خبیثوں صاحب سجادہ بلکہ قطب وقت بننے والوں کو یہ لفظ کہتے سنے گئے کہ عالم کون ہے، سب پنڈت ہیں عالم تو وہ ہو جو انبیائے بنی اسرائیل کے سے معجزے دکھائے (۲) وہ دہریے ملحد فقرو

یہاں بھی کبیرے کا ترکیب یا صغیرے پر مصر اور اس سے بدتر ہے وہ جاہل ذی رائے بنے احکام علماء میں اپنی رائے کو دخل دے یا حکم کے خلاف اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑے اور اس سے حدیث و فقہ سے بتا دیا جاتے کہ یہ رواج بے اصل ہے جب بھی اسی کو حق کہے مہر حال یہ لوگ فلاح پر نہیں اور بعض بعض سے زائد ہلاکت میں ہیں مگر صرف ترک عمل کے سبب نہ بے پراہو نہ اس کا پیر شیطان جب کہ اولیاء و علمائے دین کا سچے دل سے معتقد ہو اگرچہ شامت نفس نافرمانی پر لاتے کہ بیعت جس طرح باعتبار پیر خاص دو قسم تھی یوں ہی باعتبار مرشد عام بھی۔ اگر اس کے حکم پر چلتا ہے، بیعت ارادت رکھتا ہے ورنہ بیعت برکت سے خالی نہیں کہ ایمان و اعتقاد تو ہے تو گنہگار سنی۔ اگر کسی پیر جامع شرائط اربعہ کا مرید ہے فہما ورنہ بوجہ حسن اعتقاد مرشد عام کے منتسبوں میں ہے اگرچہ نافرمانی کے باعث فلاح پر نہیں دوہم منکر ہو کر جدائی مثلاً (۱) وہ ابلیسی مسخرے کہ علمائے دین پر ہنستے اور ان کے احکام کو نوسہ بھینتے ہیں انہی میں ہیں وہ جھوٹے مدعیان فقر جو کہتے ہیں کہ عالموں فقروں کی سدا سے ہوتی آئی ہے یہاں تک کہ بعض خبیثوں صاحب سجادہ بلکہ قطب وقت بننے والوں کو یہ لفظ کہتے سنے گئے کہ عالم کون ہے، سب پنڈت ہیں عالم تو وہ ہو جو انبیائے بنی اسرائیل کے سے معجزے دکھائے (۲) وہ دہریے ملحد فقرو

بارہ فرقوں کا پیر شیطان ہے۔

ولی بننے والے کہتے ہیں شریعت راستہ ہے ہم تو پہنچ گئے، ہمیں راستے سے کیا کام ان خبیثوں کا رُح ہمارے رسالے مقال عرفا باعزاز شریع وعلما میں ہے امام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ رسالہ مبارکہ میں فرماتے ہیں ابوعلی الروذباری بغدادی اقام بمصر وفات بها سنة اثنتین وعشرین وثلاثائة صحب الحنید والنوری اطرف المشائخ واعلمهم بالطریقة سئل عن یستع الملاحی ویقول ہی لی حلال کا فی وصلت الی درجہ لا لوث فی اختلاف الاحوال فقال نعم قد وصل ولكن الی سقر یعنی سیدی ابوعلی رودباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغدادی ہیں مصر میں اقامت فرمائی اور اسی میں ۳۲۲ھ میں وفات پائی سید الطائفہ جنید و حضرت ابوالحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب سے ہیں۔ مشائخ میں ان سے زیادہ علم طریقت کسی کو نہ تھا۔ اس جناب سے سوال ہوا کہ ایک شخص مزامیر سنتا اور کہتا ہے یہ میرے لئے حلال ہیں۔ اس لئے کہ میں ایسے درجے تک پہنچ گیا کہ احوال کا اختلاف مجھ پر کچھ اثر نہیں ڈالتا فرمایا ہاں پہنچا تو ضرور نگر کہاں تک جہنم تک۔ عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ کتاب الیواقیت والجوہر فی عقائد الاکابر میں فرماتے ہیں حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کچھ لوگ کہتے ہیں ان التکالیف کانت وسیلة الی الوصول وقد وصلنا شریعت کے احکام تو وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے فرمایا صد فتوانی الوصول ولكن الی سقر والذی لیسرق ویزنی خیر ممن یعتمد ذلک وہ سچ کہتے ہیں واصل تو ضرور ہوتے مگر جہنم تک چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں (۳) وہ جاہل اجہل یا ضال اصل کہ بے پٹھے یا کتابیں پڑھ کر بزعم خود عالم بن کر آئمہ سے بے نیاز ہو بیٹھے جیسا قرآن و حدیث ابوحنیفہ و شافعی سمجھتے تھے ان کے زعم میں یہ بھی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف حکم دیتے یہ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ یہ گمراہ بددین غیر مقلدین ہوتے (۴) اس سے بدتر وہا بیت کی اصل علت کہ تقویت الایمان پر سرمنڈا بیٹھے اس کے مقابل قرآن و حدیث پس پشت پھینک دیتے اللہ و رسول جل و علا و صلے اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم تک اس ناپاک کتاب کے طور پر معاذ اللہ مشرک ٹھہریں اور یہ اللہ و رسول کو پیٹھ دے کر اسی کے مسائل پر ایمان لائیں (۵) ان سے بدتر ان میں دیوبندی کہ انہوں نے گنگوہی و نانوٹوی و تھانوی اپنے احبار و رہبان کے کفر اسلام بنانے کے لئے اللہ و رسول کو سخت سخت گالیاں قبول کیں (۶) قادیانی (۷) انچیری (۸) چکڑالوی (۹) روافض (۱۰) خوارج (۱۱) نواصب (۱۲) معتزلہ و غیرہم بالجملہ جملہ مرتدین یا ضالین معاندین دین کہ سب مرشد عام کے مخالف و منکر ہیں۔ یہ اشد ہلاک ہیں اور ان سب کا پیر شیطان اگرچہ بظاہر کسی کی بیعت کا نام لیں بلکہ خود پیر و ولی و قطب بنیں قال اللہ تعالیٰ استخونی علیہم الشیطن فالنسلہم ذکر اللہ اولتک حزب الشیطن اکا ان حزب الشیطن ہم الخسرون ۵ شیطان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر اللہ کی یاد بھلا دی وہی شیطان کے گروہ ہیں سنتا ہے شیطان ہی کے گروہ زیاں کار ہیں والعیاذ باللہ رب العالمین

## فلاح تقویٰ

اقول اس کے لئے مرشد خاص کی ضرورت باایں معنی نہیں کہ بے اس کے یہ فلاح مل ہی نہ سکے یہ جیسا کہ اوپر گزرا، فلاح ظاہر ہے اس کے احکام واضح ہیں آدمی اپنے علم سے یا علماء سے پوچھ پوچھ کر متقی بن سکتا ہے اعمال قلب میں اگرچہ بعض دقائق ہیں مگر محدود اور کتب ائمہ مثل امام ابو طالب علی و امام حجتہ الاسلام غزالی وغیرہما میں مشروح تو بے بیعت خاص بھی اس کی راہ کشادہ اور اس کا دروازہ مفتوح یہ جبکہ اسی قدر پر اقتصار کرے تو ہم اوپر بیان کر آئے کہ غیر متقی سستی بھی بے پیر نہیں متقی کیونکر بے پیر یا معاذ اللہ میرد شیطان ہو سکتا ہے اگرچہ کسی خاص کے لامحہ پر بیعت نہ کی ہو کہ یہ جس راہ میں ہے اس میں مرشد عام کے سوا مرشد خاص کی ضرورت ہی نہیں تو جتنا پیر اسے درکار ہے حاصل ہے تو اولیا کا قول دوم کہ جس کے لئے شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے اس سے متعلق نہیں ہو سکتا اور قول اول کہ بے پیر فلاح نہیں پاتا یہ تو بدابہتہ اس پر صادق نہیں فلاح تقویٰ بلاشبہ فلاح ہے اگرچہ احسان اس سے اعظم و اجل ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے ان تجتنبوا کبابر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیاقکم

فلاح تقویٰ کیلئے مرشد خاص کی ضرورت نہیں

و نذخکم صد خلاً کریمہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و ربر مکان میں داخل فرمائیں گے یہ بلاشبہ فوز عظیم ہے۔ مولانا نے اہل تقویٰ و اہل احسان دونوں کے لئے اپنی معیت ارشاد فرمائی ان اللہ صبح الذین اتقوا والذین ہم محسنون ہے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے جو اہل احسان ہیں، یہ کیسا نفضل عظیم ہے اور فلاح کے لئے کیا چاہیے اقول بات یہ ہے کہ تقویٰ عموماً ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اس فلاح یعنی عذاب سے رستگاری کے لئے بفضل الہی حسب وعدہ صادقہ کافی و وافی احسان یعنی سلوک راہ ولایت اعلیٰ درجے کا مطلوب و محبوب ہے مگر اس کی طرح فرض نہیں ورنہ اولیاء کے سوا کہ ہر دورہ میں صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوتے ہیں باقی کروڑ یا کروڑ مسلمان ہزار بڑا علما و صلحا سب معاذ اللہ تارک فرض و سناق ہوں ایسا نہ بھی کبھی اس راہ کی عام دعوت نہ دی کروڑوں میں سے معدودے چند کو اس پر چلایا اور اس کے طالبوں میں سے بھی جسے اس بار کے قابل نہ پایا واپس فرمایا فرض سے واپس کرنا کیونکر ممکن تھا لا یكلف اللہ نفساً الا و سعہا لا یكلف اللہ نفساً الا ما اتھا عوارف شریف میں ہے اما خرقة التبرک یطلبها من مقصود التبرک سبزی القوم ومثل هذا لا یطلب بشرائط الصحبة بل یوصی بلزوم حدود الشرع و محالطہ ہذا الطائفۃ لیعود علیہ برکتہم و یتآدب باہم فسوف یروتہ ذلک الی الاہلیۃ لخرقۃ الارادۃ فعلى هذا خرقة التبرک مبدولة لكل طالب و خرقة الارادۃ ممنوعۃ الا من الصادق الراغب یعنی خرقة تبرک ہر ایک کو دیا جاسکتا ہے اور خرقة اسی کو دیا جائے گا جو اس کا اہل ہونا اہل سے اس راہ کے شرائط کا مطالبہ نہ کریں گے۔ صرف اتنا کہیں گے کہ شریعت کا پابند رہ اور اولیاء کی صحبت اختیار کر کہ

سلوک کی عام دعوت نہیں اور نہ ہر شخص اس کا اہل ہے

۱۲ لے نزعہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت بھرا اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنے کی جو اسے دیا ہے



شاید اس کی برکت اسے خرقہ ارادت کا اہل کر دے۔ تو ظاہر ہوا کہ اس کا ترک نافی سلاح نہیں نہ کہ معاذ اللہ مرید شیطان کر دے اکابر علماء و آئمہ میں ہزار ہا وہ گزرے جن سے یہ بیعت خاصہ ثابت نہیں یا کی تو آخر عمر میں بعد حصول مرتبہ امامت اور وہ بھی بیعت برکت جیسے امام ابن حجر عسقلانی نے سیدی مدین قدس سرہ کے دست مبارک پر اقتول، ہاں جو اس کا ترک بوجہ انکار کرے اسے باطل و لغو جانے وہ ضرور گمراہ اور بے فلاح و مرید شیطان ہے جب کہ انکار مطلق ہو اور اگر اپنے عصر و مصر میں کسی کو بیعت کے لئے کافی نہ جانے تو اس کا حکم اختلاف منشا سے مختلف ہو گا اگر یہ اپنے تکبر کے باعث ہے تو ایسے فی جنہم مثنوی للتکبرین کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں اور اگر بلا وجہ شرعی اپنی بدگمانی کے باعث سب کو نا اہل جانے تو یہ بھی کبیرہ ہے اور متکبر کبیرہ مفلح نہیں اور اگر ان میں وہ باتیں ہیں کہ اشتباہ میں ڈالتی ہیں اور یہ بنظر احتیاط بچتا ہے تو الزام نہیں ان من الخدم سوء اظن دع ما یریبک الی ما لا یریبک فلاح احسان کے لئے بے شک مرشد خاص کی حاجت ہے اور وہ بھی شیخ ایصال کی شیخ القصال اس کے لئے کافی نہیں اور اس کے ہاتھ پر بھی بیعت ارادت ہو۔ بیعت برکت یہاں بس نہیں۔ اس راہ میں وہ شدید باریکیاں اور سخت تاریکیاں ہیں کہ جب تک کامل مکمل اس راہ کے جملہ نشیب و فراز سے آگاہ و ماہر حل نہ کرے حل نہ ہوں گی نہ کتب سلوک کا مطالعہ کام دے گا کہ یہ دقائق تقویٰ کی طرح محدود و محدود نہیں جن کا ضبط کتاب کر سکے الطرق الی اللہ تعالیٰ بعد و النفاس الخلاق اللہ تک راستے لیتے ہیں جتنی تمام مخلوقات کی سانس میں حضور سیدنا عوث عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ کلا یتجلی لعبد فی صفتین و کلا فی صفة لعبدین الحمد للہ تعالیٰ عزوجل نہ ایک بندے پر دو صفوں میں تجلی فرمائے نہ ایک صفت سے دو بندوں

بیعت سے منکر کا حکم

فلاح احسان کے لئے مرشد خاص کی ضرورت

۱۔ ترجمہ بے شک احتیاط میں داخل ہے براہ پہلو بچنے کے لئے سوش لینا بس بات میں تجھے دغدغہ ہو اسے چھوڑ کر وہ اختیار کر جو بے دغدغہ ہو ۱۲

(ناشر)

پر رواۃ فی البہجة الشریفة و فیہ ثنیا یطول شر حھا اور ہر راہ کی دشواریاں  
 باریکیاں، گھاٹیاں جدا ہیں جن کو نہ یہ خود سمجھ سکے گا نہ کتاب بتائے گی اور وہ پرانا دستن  
 ہمکا پر فن ابلیس لعین ہر وقت ساتھ ہے۔ اگر بتانے والا آنکھیں کھولنے والا ہاتھ پکڑنے  
 والا مدد فرمانے والا ساتھ نہ ہو تو خدا جانے کس کھوہ میں گراتے کس گھائی میں ہلاک  
 کر سکتا ہے کہ سلوک ذر کنار معاذ اللہ ایمان تک ہاتھ سے جاتے جیسا کہ بارہ واقع  
 ہو چکا ہے حضور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابلیس کے ٹکڑوں فرمانا اور اس کا  
 کہنا کہ اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ورنہ اسی دھوکے سے میں نے ستر اہل  
 طریق ہلاک کئے ہیں معروف و مشہور اور کتب آئمہ مثل بہجة الاسرار شریف وغیرہ میں  
 مروی (یعنی یہ روایت لکھی ہوتی ہے) دستور۔ اقول۔ حاشا یہ مرشد عام کا بجز نہیں  
 بلکہ اس کے سمجھنے سے سالک کا بجز ہے مرشد عام میں سب کچھ ہے ماضی طنائی  
 الکتب من شیء ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھانے رکھی نہ احکام ظاہر عام لوگ نہیں  
 سمجھ سکتے جس کے سبب عوام کو علما، علما کو آئمہ، آئمہ کو رسول کی طرف رجوع فرض ہوتی  
 کہ فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے  
 یہی حکم یہاں بھی ہے اور یہاں اہل الذکر وہ مرشد خاص باوصاف مذکورہ ہے تو جو  
 اس راہ میں قدم رکھے اور (۱) کسی کو پیر نہ بنائے (۲) کسی مبتدع (۳) کسی جاہل کا مرید  
 ہو جو پیر اتصال بھی نہیں (۴) ایسے پیر کا مرید ہو جو صرف پیر اتصال ہے قابل اتصال  
 نہیں اور اس کے بھروسے پر یہ راہ طے کرنا چاہے (۵) شیخ اتصال ہی کا مرید ہو  
 مگر خود رانی برتے اس کے احکام پر نہ چلے تو یہ شخص اس فلاح کو نہ پہنچے گا۔ اور  
 اس راہ میں ضرور اس کا پیر شیطان ہو گا جس سے تعجب نہیں کہ اسے اصل فلاح  
 بلکہ نفس ایمان سے دور کر دے والعیاذ باللہ رب العالمین اقول بلکہ اس  
 کا نہ ہونا ہی تعجب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ غلطی پڑے گی تو اسی قدر کہ اس راہ میں

یہ ارشاد مبارک بہجة الاسرار شریف میں روایت کیا اور اس میں ایک استثناء ہے جس کی شرح طویل ہے۔ ۱۲ (ناشر)

ہلکے گا یہ فرض نہ تھی کہ اس کے نہ پانے سے اصل فلاح نہ رہے۔ نہیں نہیں  
عدو لعین تو دشمن ایمان ہے وقت و موقع کا منتظر ہے وہ کرشمے دکھاتا ہے۔ جن  
سے عقائد ایمانی پر حرف آتا ہے۔ آدمی ایک بات سنے ہوئے ہے اور اب آنکھوں  
سے اس کے خلاف دیکھے تو کس قدر مشکل ہے کہ اپنے مشاہدے کو غلط جانے  
اور اسی اعتقاد پر جما رہے حالانکہ لیس الخیر کا معاینہ شنیدہ کے بودمانند دیدہ  
پیر کامل کو چاہیے کہ ان شبہات کا کشف کرے رسالہ مبارکہ امام قشیری میں ہے انشاء  
ان فی ہذا الحالۃ قلما یخلو المرید فی اوان خلوة فی ابتداء ارادۃ ص  
الوسادس فی الاعتقاد الی الآخر ما افاد واجاد علینا بہ رحمت الملائک  
الجواد ثم اقول غالب یہی ہے کہ بے پیر اس راہ کا چلنے والا ان آفتوں میں  
گم ہوتا رہتا ہے اور گرگ شیطان اسے بے راہی کی بھڑپا کر نوالہ کر لیتا ہے اگرچہ  
ممکن کہ لاکھوں میں ایک ایسا ہو جسے جذب ربانی ہی کفایت و کفالت کرے  
اور بے توسط پیر اسے مرکا نہ نفس و شیطان سے بچا کر نکال لے جاتے۔ اس کے  
لئے مرشد عام مرشد خاص کا کام دے گا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
اس کے مرشد خاص ہوں گے۔ کہ بے توسط بنی کوئی وصول ممکن نہیں مگر یہ ہے تو نہایت  
نادر ہے اور تادر کے لئے حکم نہیں ہوتا ثم اقول بے مرشد خاص اس راہ میں  
قدم رکھنے والوں میں بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ ربیاضتیں چلے مجاہدے کرے  
اور اس پر اصلا فتح باب نہ ہو راہ ہی نہ کھلے جس کی دشواریاں پیش آئیں یہ اپنی فلاح  
تقویٰ پر قائم رہے گا دو شرط سے۔ ایک یہ کہ اس کا مجاہدہ اسے عجب نہ دلائے  
اپنے آپ کو اوروں سے اچھا نہ سمجھنے لگے ورنہ فلاح تقویٰ سے بھی لامحہ و صویٹ  
گا دوسرے یہ کہ عظیم محنتوں کے بعد محرومی کی تنگ دلی اسے کسی عظیم امر میں  
نہ ڈال دے کہ کوئی کلمہ سخت کہہ بیٹھے یا دل سے منکر ہو جائے کہ اس وقت فلاح  
تو درکنار اس کا پیر شیطان ہو جاتے گا اور اگر اپنی تفسیر سمجھا اور تزلزل و انکسار پر قائم

عہ سنی ہوئی بات دیکھنے کے مانند کہہ سکتی ہے، اسواضح ہو کہ اس حالت میں ابتداء ارادۃ میں زمانہ خلوت میں کم کوئی مرید ہوگا جسے عقائد میں دوسرے  
آئیں ۱۲ (نامہ)

راہ تو اس حکم سے مستثنیٰ ہے گا یوں کہ جب راہ نہ کھلی ڈراہ چلا ہی نہیں اور اس کے مثل  
 ہو جو صلاح تقویٰ پر مقتصر رہا فتول قرآن کریم کے لطائف لامتناہی ہیں اس بیان  
 سے آیت کریمہ <sup>۱۱</sup> یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا  
 فی سبیلہ لعلکم لتفلحون ۰ کے مبارک جملوں کا حسن ترتیب واضح ہو ایہ فلاح  
 احسان کی طرف دعوت ہے۔ اس کے لئے تقویٰ شرط ہے تو اولاً اس کا حکم فرمایا کہ  
 اتقوا اللہ اب کہ تقویٰ پر قائم ہو کر راہ احسان میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور یہ عبادۃ  
 بے وسیلہ شیخ ناممکن ہے لہذا دوسرے مرتبہ میں قبل سلوک تلاش پیر کو مقدم فرمایا ،  
 وابتغوا الیہ الوسیلۃ اس لئے کہ الرفیق شہ الطریق اب کہ سامان مہیا ہو لیا  
 اصل مقصود کا حکم دیا کہ وجاهدوا فی سبیلہ اس کی راہ میں مجاہدہ کرو لعلکم  
 لتفلحون تاکہ فلاح احسان پاؤ جعلنا اللہ من المفحین بفضل رحمۃ بھمانہ  
 هو الرؤف الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ وسلم وبارک علی من بہ الصلاح والفلح  
 وعلی آلہ وصحبہ وابنہ وحبزہ اجمعین امین لثم اقول یہاں سے ظاہر  
 ہوا کہ اس راہ میں فلاح وسیلہ پر موقوف کہ اس کو اس پر مرتب فرمایا تو ثابت ہوا کہ  
 یہاں بے پیر فلاح نہ پائے گا اور جب فلاح نہ پائے گا خاسر ہوگا تو حزب اللہ  
 سے نہ ہو اعزب الشیطان سے ہوگا کہ رب عزوجل فرماتا ہے اکان حزب الشیطان  
 ہم الخسرون ۰ سنا ہے شیطان ہی کا گروہ خاسر ہے اکان حزب اللہ  
 ہم المفلحون ۰ سنا ہے اللہ ہی کا گروہ فلاح والا ہے تو دوسرا جملہ بھی ثابت


۱۱ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جان لڑاؤ اس امید پر کہ فلاح پاؤ  
 ۱۲ پہلے سامتی تلاش کرو پھر راستہ لو ۱۳ لثم مترجمہ اللہ ہمیں فلاح والوں میں کرے اس  
 رحمت کے فضل سے جو فلاح والوں پر کی بیشک وہی بڑا مہربان رحم والا ہے اور اللہ درود سلام و  
 برکت اتارے ان پر جن کے صدقے میں ہر صلاح و فلاح ہے اور ان کے آل و اصحاب اور ان کے  
 پیٹے حضور غوث اعظم اور ان کے سب گروہ پر آمین ۱۲ (فاخر)



ہوا کہ بے پیرے کا پیر شیطان ہے جس کا بیان ابھی گزرا نسأل اللہ العفو والعافیۃ  
 بالجملہ حاصل تحقیق یہ چند جملے ہوتے (۱) ہر بد مذہب فساح سے دور ہلاکت  
 میں چوڑ ہے مطلقاً بے پیرا ہے اور ایسے اس کا پیر اگرچہ بظاہر کسی انسان کا مرید ہو بلکہ خود پیر  
 بنے راہ سلوک میں قدم رکھے یا نہ رکھے ہر طرح کا یفلم و شیخہ الشیطان کا مصداق  
 ہے (۲) صحیح العقیدہ کہ راہ سلوک میں نہ پڑا اگر فسق کرے فلاح پر نہیں مگر پھر بھی  
 نہ بے پیرا ہے نہ اس کا پیر شیطان۔ بلکہ جس شیخ جامع شرائط کا مرید ہو۔ اس کا مرید  
 ہے ورنہ مرشد عام کا (۳) یہ اگر تقویٰ کرے تو فلاح پر بھی ہے اور بدستور اپنے شیخ یا مرشد عام  
 کا مرید عرض سستی کہ مضائق سلوک میں نہ پڑا کسی خاص بیعت نہ کرنے سے بے پیرا نہیں ہوتا نہ  
 شیطان کا مرید ہاں فسق کرے تو فلاح پر نہیں اور متقی ہو تو مفلح بھی ہے (۴) اگر مضائق سلوک  
 میں بے پیر خاص قدم رکھا اور راہ کھلی ہی نہیں نہ کوئی مرض مثل عجب و انکار پیدا ہوا تو اپنی پہلی حالت  
 پر ہے اس میں کوئی تغیر نہ آیا شیطان اس کا پیر نہ ہوگا اور متقی تھا تو فلاح پر بھی ہے (۵) یہ مرض  
 پیدا ہوتے تو فلاح پر نہ رہا اور بحالت انکار و فساد عقیدہ مرید شیطان بھی ہو گیا (۶) اگر راہ کھلی  
 تو جب تک پیر ایصال کے باعث پر بیعت ارادت نہ رکھتا ہو غالب ہلاک ہے اس بے پیرے کا  
 پیر شیطان ہوگا اگرچہ بظاہر کسی ناقابل پیر یا محض شیخ القصال کا مرید یا خود شیخ بنتا ہو (۷) ہاں  
 اگر محض جذب ربانی کفالت فرمائے تو ہر بلا دور ہے اور اس کے پیر رسول اللہ صلی اللہ  
 تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمد للہ یہ وہ تفصیل جمیل و تحقیق جلیل ہے کہ ان اور ان کے سوا کہیں  
 نہ ملے گی۔ بیس برس ہوتے جب بھی یہ سوال ہوا اور ایک مختصر جواب لکھا گیا تھا۔ جس  
 کی تکمیل و تفصیل یہ ہے کہ اس وقت قلب فقیر پر فیض قدیر سے فائز ہوتی۔

والحمد لله رب العالمین و افضل الصلوات و اکمل السلام علی سید

المرسلین و صحبہ اجمعین و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم





# ہماری دیگر مطبوعات

پروہ | مصنفہ حضرت مولانا ابوالبشر محمد صالح نقشبندی قادری  
 حیات علیہ کتاب میں پروہ کے متعلق عقلی اور شرعی بحث پروہ کے  
 اقسام پر، کہ تفرق احکام اور مخالفین پروہ کے مختلف عقلی نقلی اعتراضات کے  
 اسکتے ہیں۔ اس ماحول میں ایسی کتاب کا ہر گھر میں موجود ہونا

ضروری ہے۔ ہدیہ ۵۰-۷۰ روپے

تواضع جدید الہی | مصنفہ مفتی عنایت احمد کاکوروی  
 رحمۃ اللہ علیہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

لاورین، پچھن، حوالی اور غزوات، معجزات و دیگر مضامین سیرت مستند  
 روایات و اسرار پر مشتمل ہے۔ بیان کیے گئے ہیں۔

مجموعہ محبوب | فارسی، اردو اور پنجابی کے مشہور و معروف  
 شاعروں کی بے نظیر نظموں کا مجموعہ، ہدیہ تین روپے

—————

اسکریپٹس، ریسرچ، ترمیم، تصحیح، تجدید، نو کالج، روڈ، ٹرسک

# ہماری دیگر طبوعات

پروہ | مصنفہ حضرت مولانا ابوالبشر محمد صالح نقشبندی قادری  
 حیات علیہ کتاب میں پروہ کے متعلق عقلی اور شرعی بحث پروہ کے  
 اقسام پروہ کے تفرق احکام اور مخالفین پروہ کے مختلف عقلی نقلی اعتراضات کے  
 اسکتے باب مذکور میں اس ماحول میں ایسی کتاب کا ہر گھر میں موجود ہونا

ضروری ہے۔ ہدیہ ۵۰-۷۰ روپے

تواریخ جدید الہ | مصنفہ مفتی عنایت احمد کاکوروی  
 رحمۃ اللہ علیہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

لاورین، پچھن، حوالی اور غزوات، معجزات و دیگر مضامین سیرت مستند  
 روایات و اسناد پر مشتمل ہے۔ بیان کیے گئے ہیں۔

مجموعہ محبوب | فارسی، اردو اور پنجابی کے مشہور و معروف  
 شاعروں کی بے نظیر نظموں کا مجموعہ، ہدیہ تین روپے

—————

اسکاتیبہ، سیر، ضویر، تیر، و جانیع، سجاد نور کالج روڈ، ٹرسک